

ہر لفظ کے ساتھ نمبر آیت کا نمبر ہے۔

((( 1 - سورة الفاتحة )))

((( پارہ-1 )))

((( 2 - سورة البقرة )))

لیکن	لَكِنَّ	12	نہ	لَمْ	6	مَعْصُوبٌ	7	غضب کیا گیا	مَعْتَبِرٌ	7	غضب کیا گیا	مَعْتَبِرٌ	7	میں پناہ میں آتا	أَعُوذُ	-
ایمان لاؤ	آمِنُوا	13	ڈرائیں انہیں	تُنذِرُهُمْ	6	لَا	7	نہیں، نہ	لَا رَيْبَ	2	نہیں شک	لَا رَيْبَ	2	ہوں	أَعُوذُ	-
جیسے	كَمَا	13	مہر لگادی	خَتَمَ	7	فِيهِ	2	اس میں	فِيهِ	2	اس میں	فِيهِ	2	سے، کی	بِ	-
کیا ہم ایمان لائیں	أَن نُّؤْمِنُ	13	انکے دل (قلب: دل)	قُلُوبِهِمْ	7	مُتَّقِينَ	2	پرہیزگار	مُتَّقِينَ	2	پرہیزگار	مُتَّقِينَ	2	سے، پر	مِنْ	-
بیوقوف	سُفَهَاءٌ	13	انکے کان	سَمِعِهِمْ	7	يُؤْمِنُونَ	3	ایمان لاتے ہیں	يُؤْمِنُونَ	3	ایمان لاتے ہیں	يُؤْمِنُونَ	3	مردود	رَجِيمٌ	-
وہ نہیں جانتے	لَا يَعْلَمُونَ	13	انکی آنکھیں	أَبْصَارِهِمْ	7	غَيْبٌ	3	غیب، پوشیدہ	غَيْبٌ	3	غیب، پوشیدہ	غَيْبٌ	3	نام	إِسْمٌ	1
جب وہ ملتے ہیں	إِذَا لَقُوا	14	پردہ	غِشَاوَةٌ	7	يُقِيمُونَ	3	قائم کرتے ہیں	يُقِيمُونَ	3	قائم کرتے ہیں	يُقِيمُونَ	3	بہت مہربان	الرَّحْمَانُ	1
اکیلے ہوتے ہیں	خَلُّوا	14	عذاب	عَذَابٌ	7	الصَّلَاةِ	3	نماز	الصَّلَاةِ	3	نماز	الصَّلَاةِ	3	رحم والا	الرَّحِيمُ	1
شیطان کی جمع	شَيْطَانِينَ	14	بڑا	عَظِيمٌ	7	مِمَّا	3	جو کچھ، اس میں	مِمَّا	3	جو کچھ، اس میں	مِمَّا	3	تمام تعریفیں	الْحَمْدُ	2
ساتھ تمہارے	مَعَكُمْ	14	لوگ	النَّاسِ	8	رِزْقَنَا	3	دیا ہم نے	رِزْقَنَا	3	دیا ہم نے	رِزْقَنَا	3	لیے، واسطے	لِ	2
مذاق کرنے والے	مُسْتَهْزِئُونَ	14	جو	مَنْ	8	هُم	3	انھیں	هُم	3	انھیں	هُم	3	پالنے والا تمام	رَبِّ	2
بڑھاتا ہے انکو	يَمُدُّهُمْ	15	کہتے ہیں	يَقُولُ	8	يُنْفِقُونَ	3	خرچ کرتے ہیں	يُنْفِقُونَ	3	خرچ کرتے ہیں	يُنْفِقُونَ	3	جہانوں کا	العَالَمِينَ	2
سرکشی انکی	طُغْيَانِهِمْ	15	ہم ایمان لائے	آمَنَّا	8	بِمَا	4	اس پر جو	بِمَا	4	اس پر جو	بِمَا	4	مالک	مَالِكٍ	4
وہ اندھے ہو رہے	يَعْمَهُونَ	15	دھوکہ دیتے ہیں	يُخَادِعُونَ	9	أَنْزَلَ	4	نازل کیا گیا	أَنْزَلَ	4	نازل کیا گیا	أَنْزَلَ	4	دن (آیام: دنوں)	يَوْمٍ	4
ہیں	إِشْتَرَوْا	16	نہیں	مَا	9	إِلَيْكَ	4	آپ کی طرف	إِلَيْكَ	4	آپ کی طرف	إِلَيْكَ	4	بدلہ	الدِّينِ	4
مول لیا، خریدا	صَلَاةً	16	مگر	إِلَّا	9	قَبْلَكَ	4	پہلے آپ سے	قَبْلَكَ	4	پہلے آپ سے	قَبْلَكَ	4	صرف تیری ہی	إِيَّاكَ	5
گمراہی	فَمَا رِيحَتْ	16	اپنے آپ	أَنْفُسَهُمْ	9	أَخْرَجَ	4	خرچ کرتے ہیں	يُنْفِقُونَ	3	خرچ کرتے ہیں	يُنْفِقُونَ	3	ہم عبادت کرتے	نَعْبُدُ	5
پس نہ فائدہ دیا	تِجَارَتُهُمْ	16	نہیں وہ سمجھتے	مَا يَشْعُرُونَ	9	يُوقِنُونَ	4	یقین رکھتے ہیں	يُوقِنُونَ	4	یقین رکھتے ہیں	يُوقِنُونَ	4	ہیں	و	5
تجارت انکی	مُهْتَدِينَ	16	بیماری	مَرَضٌ	10	أَوْلِيَايَكَ	5	وہی لوگ	أَوْلِيَايَكَ	5	وہی لوگ	أَوْلِيَايَكَ	5	ہم مدد چاہتے ہیں	نَسْتَعِينُ	5
ہدایت پانے والے	مَثَلُهُمْ	17	سو بڑھادیا انکو	فَرَادَهُمْ	10	مُفْلِحُونَ	5	کامیاب، فلاح پانے	مُفْلِحُونَ	5	کامیاب، فلاح پانے	مُفْلِحُونَ	5	ہدایت دے	أَهْدِ	6
مثال انکی	كَ	17	دردناک	أَلِيمٌ	10	إِنَّ	6	بے شک	إِنَّ	6	بے شک	إِنَّ	6	ہم کو	نَا	6
مانند، جیسے	الَّذِي	17	تھے وہ	كَانُوا	10	كَفَرُوا	6	کفر کیا انہوں نے	كَفَرُوا	6	کفر کیا انہوں نے	كَفَرُوا	6	راستہ	صِرَاطَ	6
وہ جو، جس نے	إِسْتَوْقَدَ	17	جھوٹ بولتے	يَكْذِبُونَ	10	سَوَاءٌ	6	برابر	سَوَاءٌ	6	برابر	سَوَاءٌ	6	سیدھا	مُسْتَقِيمٌ	6
بھڑکانی	نَارٍ	17	جب کہا جاتا ہے	إِذَا قِيلَ	11	أَنْذَرْتَهُمْ	6	آپ ڈرائیں انکو	أَنْذَرْتَهُمْ	6	آپ ڈرائیں انکو	أَنْذَرْتَهُمْ	6	ان لوگوں کا	الَّذِينَ	7
آگ	فَلَمَّا	17	مت فساد پھیلادو	لَا تُفْسِدُوا	11	ء	6	خواہ	ء	6	خواہ	ء	6	تو نے انعام کیا	أَنْعَمْتَ	7
پھر جب	أَصْنَآءٌ	17	زمین میں	فِي الْأَرْضِ	11	أَمْ	6	یا	أَمْ	6	یا	أَمْ	6	ان پر	عَلَيْهِمْ	7
روشن کر دیا	حَوْلَهُ	17	وہ کہتے ہیں، انہوں	قَالُوا	11	أَمْ	6	یا	أَمْ	6	یا	أَمْ	6	نہ	غَيْرِ	7
ارد گرد اس کے	ذَهَبٍ	17	نے کہا	إِنَّمَا	11	أَمْ	6	یا	أَمْ	6	یا	أَمْ	6			
چھین لیا	نُورِهِمْ	17	صرف	نَحْنُ	11	أَمْ	6	یا	أَمْ	6	یا	أَمْ	6			
روشنی انکی، نور ان	تَرَكَ	17	ہم	نَحْنُ	11	أَمْ	6	یا	أَمْ	6	یا	أَمْ	6			
کا	ظَلَمَاتٌ	17	اصلاح کرنے والے	مُصْلِحُونَ	11	أَمْ	6	یا	أَمْ	6	یا	أَمْ	6			
چھوڑ دیا	تَرَكَ	17	سن رکھو!	أَلَا	12	أَمْ	6	یا	أَمْ	6	یا	أَمْ	6			
اندھیرے	ظَلَمَاتٌ	17	فساد کرنے والے	مُفْسِدُونَ	12	أَمْ	6	یا	أَمْ	6	یا	أَمْ	6			

27	مِينَاق	پختہ اقرار	27	يَقْطَعُونَ	کاٹتے ہیں	27	يُؤْصَلُ	وہ جوڑے رکھیں	27	نَقْصَانِ اِثْمَانِ	نقصان اٹھانے والے	28	كَيْفَ	کیوں کر، کس طرح	28	أَمْوَاتًا	مردے	28	فَأَحْيَاكُمْ	تو اس نے زندگی بخشی تمہیں	28	ثُمَّ	پھر	28	يُمِيشُكُمْ	مارے گا تم کو	29	جَمِيعًا	سب	29	اِسْتَوَى	قصد کیا	29	سَوَّاهُنَّ	ٹھیک بنایا ان کو	29	سَبَّعَ	سات	29	عَلَيْكُمْ	جانے والا	30	لِلْمَلَائِكَةِ	فرشتوں سے (ملک)	30	خَلِيفَةً	نائب	30	يَسْفِكُ	بہائے گا	30	دِمَاءً	خون	30	نُسَبِحُ	ہم بے عیب کہتے ہیں	30	نُقَدِّسُ	ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں	31	عَلَّمَ	سکھائے	31	أَسْمَاءَ	نام (اسم sg)	31	عَرَضَهُمْ	سامنے کیا انہیں	31	أَنْسُوْنِي	بتلاؤ مجھے	31	هُؤْلَاءِ	ان	32	سُبْحَانَكَ	پاک ہے تو	32	لَا عِلْمَ	نہیں کوئی علم	32	لَنَا	واسطے ہمارے،	25	جَنَاتٍ	جنتیں، باغات	25	تَجْرِي	بہتی ہیں	25	تَحْتِهَا	نیچے انکے	25	أَنْهَارًا	نہریں (نہر sg)	25	زُرُقُوا	کھانے کو دیا جائے گا	25	مِنْهَا	اس سے	25	هَذَا	یہ	25	أَنْوَا	انہیں دیا گیا	25	مُتَشَابِهًا	ملتا جلتا	25	أَزْوَاجٍ	بیویاں (زوج sg)	25	مُطَهَّرَةً	پاکیزہ	25	خَالِدُونَ	ہمیشہ رہنے والے	26	لَا يَسْتَحْيِ	نہیں شرماتا	26	أَنْ	کہ	26	يَضْرِبُ	بیان کرے مثال	26	مَثَلًا	مثلاً	26	بِعُوضَةٍ	مجھڑ	26	فَمَا	خواہ جو	26	فَوَقَّهَا	اوپر اٹکے	26	فَأَمَّا	سو جو	26	أَنَّهُ	کہ وہ	26	حَقُّ	حق، سچ، لازم	26	مَاذَا	کیا	26	أَرَادَ	ارادہ کیا	26	يُضِلُّ	گمراہ کرتا ہے	26	كَثِيرًا	بہت سے	26	يَهْدِي	ہدایت دیتا ہے	26	فَاسْقِيْنَ	نافرمان	27	يَنْفُضُونَ	توڑتے ہیں	27	عَهْدٍ	وعدہ	27	بَعْدِ	بعد	27	تَمَّ	تاکہ تم	27	تَتَّقُونَ	تم پر ہیزگار ہو جاؤ	27	جَعَلَ	بنایا	27	لَكُمْ	تمہارے لیے	27	فِرَاشًا	فرش	27	بِنَاءٍ	چھت	27	أَنْزَلَ	اُتارا	27	مَاءً	پانی	27	أَخْرَجَ	نکالا	27	بِهِ	اسکے ذریعہ	27	ثَمَرَاتٍ	پھل	27	فَلَا تَجْعَلُوا	سو نہ ٹھیراؤ	27	أَنْدَادًا	شریک (جمع)	27	أَنْتُمْ	تم	27	إِنْ	اگر	27	كُنْتُمْ	تم ہو	27	نَزَّلْنَا	ہم نے اُتارا	27	عَبَدْنَا	بندہ ہمارا (عباد: pl)	27	فَأْتُوا	تولے آؤ	27	سُورَةً	ایک سورہ	27	وَ اِذْعُوا	اور بلاؤ	27	شُهَدَاءَكُمْ	مددگار تمہارے	27	صَادِقِينَ	سچے	27	لَمْ تَفْعَلُوا	تم نہ کر سکو	27	لَنْ تَفْعَلُوا	تم ہرگز نہ کر سکو گے	27	الَّتِي	جس کا	27	وَقُودُهَا	ایندھن	27	حِجَارَةً	پتھر (حجر: sg)	27	أَعَدَّتْ	تیار کی گئی	27	بَشِيرٌ	خوش خبری دو	27	عَمِلُوا	انہوں نے عمل کیے	27	صَالِحَاتٍ	نیک (صالحۃ sg)	27	أَنَّ	کہ	17	لَا يُبْصِرُونَ	نہیں وہ دیکھتے	18	صُمٌّ	بہرے	18	بُكْمٌ	گونگے	18	عُمَى	اندھے	18	لَا يَرِجِفُونَ	نہیں لوٹیں گے	19	أَوْ	یا	19	صَيْبٍ	بارش	19	سَمَاءٌ	آسمان (سماوات: pl)	19	رَعْدٌ	گرج	19	بَرْقٌ	چمک بجلی کی	19	يَجْعَلُونَ	وہ ٹھوس لیتے ہیں	19	أَصَابِعَهُمْ	انگلیاں انکی	19	أَذَانٌ	کان انکے (أذن: sg)	19	صَوَاعِقُ	طرک (صاعقة: sg)	19	حَذَرٌ	ڈر	19	مَوْتُ	موت	19	مُحِيطٌ	گھیرنے والا	19	الْكَافِرِينَ	کافر لوگ	20	يَكَادُ	قریب ہے	20	يَخْطَفُ	اچک لے	20	كُلَّمَا	جب کبھی	20	مَشُوا	چل پڑے	20	أَطْلَمَ	اندھیرا ہوا	20	قَامُوا	کھڑے ہوئے	20	لَوْ	اگر	20	شَاءَ (ش ي ء)	چاہتا	20	كُلِّ شَيْءٍ	ہر چیز	20	قَدِيرٌ	قادر	20	يَا أَيُّهَا	اے لوگو	21	النَّاسِ	الناس	21	أَعْبُدُوا	عبادت کرو	21	خَلَقَكُمْ	پیدا کیا تم کو
----	---------	------------	----	-------------	-----------	----	----------	---------------	----	---------------------	-------------------	----	--------	-----------------	----	------------	------	----	---------------	---------------------------	----	-------	-----	----	-------------	---------------	----	----------	----	----	-----------	---------	----	-------------	------------------	----	---------	-----	----	------------	-----------	----	-----------------	-----------------	----	-----------	------	----	----------	----------	----	---------	-----	----	----------	--------------------	----	-----------	--------------------------	----	---------	--------	----	-----------	--------------	----	------------	-----------------	----	-------------	------------	----	-----------	----	----	-------------	-----------	----	------------	---------------	----	-------	--------------	----	---------	--------------	----	---------	----------	----	-----------	-----------	----	------------	----------------	----	----------	----------------------	----	---------	-------	----	-------	----	----	---------	---------------	----	--------------	-----------	----	-----------	-----------------	----	-------------	--------	----	------------	-----------------	----	----------------	-------------	----	------	----	----	----------	---------------	----	---------	-------	----	-----------	------	----	-------	---------	----	------------	-----------	----	----------	-------	----	---------	-------	----	-------	--------------	----	--------	-----	----	---------	-----------	----	---------	---------------	----	----------	--------	----	---------	---------------	----	-------------	---------	----	-------------	-----------	----	--------	------	----	--------	-----	----	-------	---------	----	------------	---------------------	----	--------	-------	----	--------	------------	----	----------	-----	----	---------	-----	----	----------	--------	----	-------	------	----	----------	-------	----	------	------------	----	-----------	-----	----	------------------	--------------	----	------------	------------	----	----------	----	----	------	-----	----	----------	-------	----	------------	--------------	----	-----------	-----------------------	----	----------	---------	----	---------	----------	----	-------------	----------	----	---------------	---------------	----	------------	-----	----	-----------------	--------------	----	-----------------	----------------------	----	---------	-------	----	------------	--------	----	-----------	----------------	----	-----------	-------------	----	---------	-------------	----	----------	------------------	----	------------	----------------	----	-------	----	----	-----------------	----------------	----	-------	------	----	--------	-------	----	-------	-------	----	-----------------	---------------	----	------	----	----	--------	------	----	---------	--------------------	----	--------	-----	----	--------	-------------	----	-------------	------------------	----	---------------	--------------	----	---------	--------------------	----	-----------	-----------------	----	--------	----	----	--------	-----	----	---------	-------------	----	---------------	----------	----	---------	---------	----	----------	--------	----	----------	---------	----	--------	--------	----	----------	-------------	----	---------	-----------	----	------	-----	----	---------------	-------	----	--------------	--------	----	---------	------	----	--------------	---------	----	----------	-------	----	------------	-----------	----	------------	----------------

ہم نے پھاڑ دیا	50 فَرَقْنَا	44 کیا تم حکم دیتے ہو؟	44 أَتَأْمُرُونَ	37 فَتَابَ عَلٰی	37 پس توبہ قبول کی	ہمیں	32 أَنْتَ	32 تو
دریا	50 بَحْرٌ	44 نیکی کا	44 بِالْبِرِّ	37 تَوَابٌ	37 توبہ قبول کرنے والا	حکمت والا	32 حَكِيمٌ	32 میں جانتا ہوں
ہم نے ڈبو دیا	50 أَغْرَقْنَا	44 تم بھول جاتے ہو	44 تَنْسُونَ	38 فَيَأْتِيكُمْ	38 پس جب	تم ظاہر کرتے ہو	33 أَعْلَمُ	33 تم چھپاتے ہو
تم دیکھ رہے تھے	50 تَنْظُرُونَ	44 تم پڑھتے ہو	44 تَنْقُلُونَ	38 يَأْتِيكُمْ	38 پہنچے تمہیں	تم چھپاتے ہو	33 تُبْدُونَ	34 تُكْتُمُونَ
ہم نے وعدہ کیا	51 وَوَعَدْنَا	44 تم سمجھتے	44 تَعْقِلُونَ	38 مِثِّي	38 میری طرف سے	سجدہ کرو	34 تُكْتُمُونَ	34 اٰلِيسَ
موسیٰ علیہ السلام	51 مُوسَى	45 مدد حاصل کرو	45 اسْتَعِينُوا	38 تَبِعَ	38 چلا (اتباع کی)	ابلیس	34 اٰلِيسَ	34 اِنكَرِيَا
چالیس، 40	51 اَرْبَعِيْنَ	45 صبر سے	45 بِالصَّبْرِ	38 خَوْفٌ	38 کوئی خوف	انکار کیا	34 اٰلِيسَ	34 اسْتَكْبَرَ
رات	51 لَيْلَةً	45 بڑی دشوار	45 لَكَبِيْرَةً	38 يَحْزَنُونَ	38 غمگین ہوں گے	تکبر کیا	34 اٰلِيسَ	34 كَانَ
تم نے بنا لیا	51 اِنْتَحَدْتُمْ	45 عاجزی کرنے والے	45 خَاشِعِيْنَ	39 كَذَّبُوا	39 جھٹلایا انہوں نے	ہو گیا	34 اٰلِيسَ	35 اَسْكُنْ
بچھڑا	51 عِجْلًا	46 یقین رکھتے ہیں	46 يَظُنُّونَ	39 آيَاتِنَا	39 آیات ہماری	تم رہو	34 اٰلِيسَ	35 كَلَّا
ہم نے معاف	52 عَفَوْنَا عَنْكُمْ	46 روبرو ہونے والے	46 مُلَاقِفًا	39 اَصْحَابِ	39 دوزخ والے	تم دونوں کھاؤ	34 اٰلِيسَ	35 رَعَدًا
کردیا تم کو	52 عَفَوْنَا عَنْكُمْ	46 لوٹنے والے	46 رَاجِعُونَ	40 يٰۤا	40 اے	اطمینان سے	34 اٰلِيسَ	35 حَيْثُ
تم احسان مانو	52 تَشْكُرُونَ	47 فضیلت دی میں نے	47 فَضَّلْتُ	40 بَنِي	40 بیٹے یعقوب (علیہ	جہاں کہیں	34 اٰلِيسَ	35 شِئْتُمَا
ہم نے دی	53 آتَيْنَا	48 نہ بدلہ بنے گا	48 لَا تَحْزِنِيْ	40 اِسْرَآئِيْلَ	40 اسرائیل (السلام) کے	تم دونوں چاہو	34 اٰلِيسَ	35 لَا تَقْرَبَا
جداجدا کرنے والے	53 الْفُرْقَانَ	48 کوئی نفس (انفس	48 نَفْسٌ	40 اَذْكُرُوا	40 یاد کرو	مت قریب جانا	34 اٰلِيسَ	35 هٰذِهِ
احکام، کسوٹی	53 الْفُرْقَانَ	48 سے	48 عَن	40 نِعْمَ مَتِي	40 نعمت میری	(دونوں)	34 اٰلِيسَ	35 شَجَرَةً
اسکی قوم سے	54 لِقَوْمِهِ	48 نہ قبول کیا جائے گا	48 لَا يَقْبَلُ	40 اَوْفُوا	40 پورا کرو تم	یہ	34 اٰلِيسَ	35 فَتَكُونَا
تم نے ظلم کیا	54 ظَلَمْتُمْ	48 کوئی سفارش	48 شَفَاعَةٌ	40 اَوْفُوا	40 میں پورا کروں گا	درخت	34 اٰلِيسَ	35 ظَالِمِيْنَ
سو تم رجوع کرو	54 فَتَوُْبُوا	48 نہ لیا جائے گا	48 لَا يُؤْخَذُ	40 اِيَّايْ	40 مجھ ہی سے	پھر ہو جاؤ گے (تم	34 اٰلِيسَ	36 فَآزَلَهُمَا
پیدا کرنے والا تم	54 بَارِيْكُمْ	48 کوئی معاوضہ	48 عَدَلٌ	40 اِيَّايْ	40 مجھ ہی سے	دونوں کو	34 اٰلِيسَ	36 اِهْبِطُوْا
کو	54 بَارِيْكُمْ	48 انکی مدد کی جائے گی	48 يُنصِرُونَ	40 فَآزَهَيُّوْنَ	40 پس ڈرو مجھ سے	اتر جاؤ	34 اٰلِيسَ	36 بَعْضُكُمْ
سو تم ہلاک کرو	54 فَآفْتَلُوْا	48 ہم نے رہائی دی تم	48 نَجَّيْنَاكُمْ	41 مُصَدِّقًا	41 تصدیق کرنے والا	بعض تمہارے	34 اٰلِيسَ	36 عَدُوٌّ
بہتر، کوئی نیکی، مال	54 خَيْرٌ	49 کو	49 نَجَّيْنَاكُمْ	41 لَا تَكُوْنُوْا	41 مت ہو جاؤ	دشمن	34 اٰلِيسَ	36 مُسْتَقْفِرٌ
نزدیک	54 عِنْدَ	49 اولاد	49 آل	41 اَوَّلٌ	41 پہلے	ٹھکانا	34 اٰلِيسَ	36 مَتَاعٌ
تجھے	55 لَكَ	49 مصر کے بادشاہ کا نام	49 فِرْعَوْنَ	41 ثَمَنًا	41 قیمت	سامان، خرچ	34 اٰلِيسَ	36 حِيْنَ
جب تک	55 حَتَّى	49 دھ دیتے تھے تم کو	49 يَسْؤُمُوْنَكُمْ	41 قَلِيْلًا	41 تھوڑی	وقت	34 اٰلِيسَ	37 فَتَلْقَى
ہم دیکھ لیں	55 نَزَى	49 بُرا	49 سُوءٌ	42 لَا تَلْبِسُوْا	42 مت ملاؤ	بھر حاصل کر لے	34 اٰلِيسَ	37 كَلِمَاتٍ
کھلم کھلا	55 جَهْرَةً	49 ذبح کرتے تھے	49 يُذْبِحُونَ	42 بِالْبَاطِلِ	42 باطل سے، ناحق	کلمے	34 اٰلِيسَ	
پھر تمہیں آ لیا	55 فَآخَذْنَاكُمْ	49 تمہارے بیٹے	49 اَبْنَاءَكُمْ	42 لَا تَكْتُمُوْا	42 مت چھپاؤ		34 اٰلِيسَ	
بجلی کی سڑک	55 صَاعِقَةً	49 زندہ چھوڑ دیتے تھے	49 يَسْتَحْيُونَ	43 اَنْتَا	43 ادا کرو، دو		34 اٰلِيسَ	
ہم نے زندہ کیا تم	56 بَعَثْنَاكُمْ	49 عورتیں تمہاری	49 نِسَاءَكُمْ	43 الزَّكُوَّةَ	43 زکوٰۃ		34 اٰلِيسَ	
کو	56 بَعَثْنَاكُمْ	49 آزمائش	49 بَلَاءٌ	43 اَرْكَعُوْا	43 رکوع کرو		34 اٰلِيسَ	
ہم نے سایہ کیا	57 ظَلَّلْنَا						34 اٰلِيسَ	

73	بِبَعْضِهَا	ارکا کٹرا	65	إِعْتَدُوا	زیادتی کی	61	طَعَامٌ	کھانا	57	عَمَامٌ	بادل
74	قَسَتْ	سخت ہو گئے	65	الَسْبِثُ	ہفتہ کا دن	61	تُنْبِتُ	اگتی ہے	57	الْمُنُّ	من
74	أَشَدُّ	اس سے زیادہ	65	كُونُوا	ہو جاؤ	61	بَقْلٌ	ترکاری	57	سَلْوَى	سلوی
74	قَسْوَةٌ	سخت	65	قِرْدَةٌ	بندر	61	قِتَاءٌ	نکڑی	57	كُلُوا	کھاؤ
74	يَتَفَجَّرُ	پھوٹ نکلتی ہیں	65	خَاسِبِينَ	ذلیل	61	فُؤْمٌ	گندم	57	طَيِّبَاتٍ	پاک
74	يَسْتَفِقُ	پھٹ جاتے ہیں	66	نَكَالًا	عبرت	61	عَدَسٌ	مسور	57	لَكِنُ	لیکن
74	يَهْبِطُ	گرتا ہے	66	بَيْنَ يَدَيْهَا	اُسکے سامنے	61	بَصَلٌ	پیاز	58	ادْخُلُوا	تم داخل ہو جاؤ
74	خَشِيَةُ اللَّهِ	اللہ کا ڈر	66	خَلْفَهَا	اُسکے پیچھے	61	تَسْتَبْدِلُونَ	تم بدلنا چاہتے ہو	58	هَذِهِ	یہ
74	بِعَافِلٍ	بے خبر	66	مَوْعِظَةٌ	نصیحت	61	أَذْنَى	ادنی، معمولی	58	قَرِيْبَةٌ	بستی
74	عَمَّا	اس سے جو	67	بَقْرَةٌ	گائے	61	مِصْرٌ	شہر	58	بَابٌ	دروازہ
75	أَفْتَطَمْعُونَ	کیا پھر تم توقع رکھتے ہو	67	هُزُوًا	مذاق	61	سَأَلْتُمْ	تم نے مانگا	58	حِطَّةٌ	بخش دے
75	فَرِيْقٌ	ایک فریق	67	الْجَاهِلِينَ	جاہل لوگ	61	ذِلَّةٌ	ذلت	58	نَعْفِرُ	ہم بخش دیں گے
75	يُحَرِّفُونَهُ	وہ بدل ڈالتے ہیں اسکو	68	يُبَيِّنُ	بتلائے	61	مَسْكَنَةٌ	محتاجی	58	حَطَايَاكُمْ	خطائیں تمہاری
75	عَقْلُوهُ	انہوں نے سمجھ لیا اسکو	68	لَا فَاْرِضٌ	نہ بوڑھی	61	بَاءٌ وَا	وہ لوٹے	58	سَ	عنقریب
76	أَتَحَدُّثُونَهُمْ	کیا تم بتاتے ہو انہیں	68	لَا بَكْرٌ	نہ چھوٹی عمر	61	يَقْتُلُونَ	وہ قتل کرتے	58	نَرِيدُ	ہم زیادہ دیں گے
76	فَتَحٌ	ظاہر کیا	68	عَوَانٌ	جوان	61	نَبِيِّينَ	نبی (جمع)، انبیاء	58	مُحْسِنِينَ	نیکی کرنے والے
76	لِيُحَاجُّوكُمْ	تاکہ وہ حجت لائیں تم پر	69	لَوْنَهَا	رنگ اسکا	61	بِغَيْرِ الْحَقِّ	ناحق	59	فَ	پھر
77	يُسِرُّونَ	وہ چھپاتے ہیں	69	صَفْرَاءُ	زر درنگ	61	عَصَوًا	نافرمانی کی	59	بَدَلٌ	بدل ڈالا
77	يُعْلِنُونَ	وہ ظاہر کرتے ہیں	69	فَاقِعٌ	گہرا	61	يَعْتَدُونَ	حد سے بڑھتے	59	رِجْرًا	عذاب
78	أُمِّيُّونَ	ان پڑھ لوگ (اُمّی: واحد)	69	تَسْرٌ	اچھی لگتی	62	هَادُوا	وہ بیہودی ہوئے	59	يَفْسُقُونَ	وہ نافرمانی کرتے تھے
79	فَوَيْلٌ	سو (پس) خرابی ہے	69	نَاطِرِينَ	دیکھنے والے	62	نَصَارَى	السلام کومانے والے	60	اسْتَسْقَى	پانی مانگا
79	يَكْتُمُونَ	وہ لکھتے ہیں	70	تَشَابَهَةٌ	اشتباہ ہو گیا	62	صَابِغِينَ	توم کا نام	60	اِحْرَبٌ	مارو
79	أَيُّدِيهِمْ	ہاتھ اُنکے (ید: واحد)	71	لَا ذُلُولٌ	نہ سدھی ہوئی ہو	62	أَجْرُهُمْ	اجران کا	60	عَصَا	عصا
79	يَكْسِبُونَ	وہ کماتے ہیں	71	تُخَيِّرُ الْأَرْضَ	جو تیری زمین کو	63	رَفَعْنَا	ہم نے اٹھایا	60	إِنْفَجَرَتْ	پھوٹ پڑے
80	لَنْ تَمَسَّنَا	ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو	71	تَسْقِي	پانی دیتی	63	الطُّورُ	کوہ طور	60	اِثْنَا عَشْرَةَ	بارہ
80	مَعْدُودَةً	چند	71	حَزَتْ	بھیتی	63	بِقُوَّةٍ	مضبوطی سے	60	عَيْنًا	چشمے، آنکھ
			71	مُسْلَمَةٌ	بے عیب	64	تَوَلَّيْتُمْ	تم پھر گئے	60	قَدْ عَلِمَ	جان لیا
			71	لَا شَيْءَ	نہ کوئی داغ	64	فَضْلٌ	فضل	60	مَشْرَبٌ	گھاٹ
			71	أَلَسَنٌ	اب	64	رَحْمَتُهُ	رحمت اسکی	60	اِشْرَبُوا	تم پیو
			71	وَمَا كَادُوا	اور وہ نہ لگتے تھے	64	رَحْمَتُهُ	رحمت اسکی	60	لَا تَعْتَوُوا	تم نہ پھرو
			72	نَفْسًا	ایک جان، ایک آدمی	65	لَقَدْ	البتہ	61	لَنْ نُنصِرَ	ہرگز ہم صبر نہ کریں گے
			72	فَادَّارَءْتُمْ	پھر تم جھگڑنے لگے						

105	أَهْلَ الْكِتَابِ اهل کتاب	96	بَصِيرٌ دیکھنے والا	87	ابن مَرْيَمَ مریم کا بیٹا	80	يُخَلِّفُ وہ خلاف کرے گا
105	يَخْتَصُّ خاص کر لیتا ہے	97	جبرئیل علیہ السلام	87	الْبَيْتَاتِ کھلی نشانیاں	81	سَيِّئَةً
105	ذُو الْفَضْلِ فضل والا	97	بِإِذْنِ حکم سے	87	أَيَّدَنَاهُ ہم نے مدد کی اسکی	81	أَحَاطَتْ گھیر لیا
106	نَنْسَخُ ہم منسوخ کرتے ہیں	97	بُشْرَى خوشخبری	87	رُوحِ الْقُدُسِ حضرت جبرئیل علیہ السلام	83	لَا تَعْبُدُونَ تم عبادت نہ کرنا
106	آيَةٍ کوئی آیت	98	مِيكَالَ میکائیل علیہ السلام	87	جَاءَكُمْ پاس آیا تمہارے	83	بِالْوَالِدَيْنِ والدین کے ساتھ
106	نُنْسِئُهَا ہم بھلا دیتے ہیں اسکو	100	عَاهِدُوا انہوں نے عہد کیا	87	لَا تَهْوَى نہ چاہتے	83	إِحْسَانًا حسن سلوک، اچھا طریقہ
106	نَاتٍ ب ہم لے آتے ہیں	100	أَكْثَرُهُمْ اکثر ان کے	88	غُلْفٌ پردہ	83	ذِي الْقُرْبَى قریب دار
107	وَلِيٍّ حامی	101	ظُهُورِهِمْ پیٹھیں ان کی	88	بَل بلکہ	83	الْيَتَامَى یتیم
107	نَصِيرٍ مددگار	101	اتَّبِعُوا انہوں نے پیروی کی	88	لَعْنَتُهُمْ لعنت کی ان پر	83	الْمَسَاكِينَ مسکین (جمع)
108	تَسْأَلُوا تم سوال کرو	101	تَتَلَّوْا پڑھتے	89	يَسْتَفْتِحُونَ وہ فتح مانگتے	83	حُسنًا اچھی بات
108	سُئِلَ سوال کیے گئے	101	الشَّيَاطِينِ شیطان (جمع)	89	عَرَفُوا پہچانا انہوں نے	83	مِعْرُوضُونَ پھر جانے والے
108	يَتَّبَدَّلُ اختیار کر لے	101	مُلْكٌ بادشاہت	90	بِسْمَا براہے جو	84	دِيَارِكُمْ تمہاری بستیاں
109	حَسَدًا حسد	101	سُلَيْمَانَ سلیمان علیہ السلام	90	بَغِيًّا ضد	84	أَقْرَبُكُمْ تم نے اقرار کیا
109	تَبَيَّنَ واضح ہو گیا	101	السَّحَرِ جادو	90	مُهَيِّنٌ رسوا کرنے والا	84	تَشْهَدُونَ تم گواہ ہو
109	وَاصْفَحُوا اور درگزر کرو	101	بَابِلَ شہر بابل	91	وَرَاءَهُ پیچھے اس کے	85	تَظَاهَرُونَ تم چڑھائی کرتے ہو
111	لَنْ يَدْخُلَ ہر گز نہیں داخل ہوگا	102	هَازُونَ وَمَازُونَ فرشتوں کا نام	91	فَلِمَ سو کیوں	85	الْإِنَّمِ تناہ
111	هُودًا یہودی	102	أَحَدٍ کوئی ایک	92	أَشْرَبُوا رچا دیا گیا	85	وَالْعُدْوَانَ سرکشی
111	أَمَانِيَهُمْ جھوٹی آرزوئیں انکی	102	فِشْنَةَ آزمائش، فتنہ	92	يَأْمُرُكُمْ حکم دیتا ہے تم کو	85	أَسَارَى قیدی (جمع)
111	لَاؤُ جھوٹی آرزوئیں انکی	102	يُفْرِقُونَ وہ جدائی ڈالتے	93	خَالِصَةً خاص طور پر	85	تُفَادُوهُمْ تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو
111	بُرْهَانِكُمْ دلیل تمہاری	102	الْمَرْءِ خاوند، آدمی	93	ذُونَ النَّاسِ سوائے لوگوں کے	85	مُحَرَّمٌ حرام کیا گیا
112	أَسْلَمَ جھکا دیا	102	صَارِينَ نقصان پہنچانے والے	94	فَتَمَنَّوْا تو تم آرزو کرو	85	جَزَاء بدلہ
112	وَجْهَهُ چہرہ اسکا	102	يَضُرُّهُمْ نقصان پہنچانے انہیں	95	أَبَدًا کبھی بھی	85	حَزِيٌّ رسوائی
113	لَيْسَتْ نہیں	102	وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور نہیں نفع دے انکو	95	قَدَمَتْ آگے بھیجا	85	الْحَيَاةِ دنیا کی زندگی
113	يَحْكُمُ فیصلہ کرے گا	102	مِنْ خَلْقٍ کوئی حصہ	96	لَتَجِدَنَّاهُمْ البتہ تم پاؤ گے انہیں	85	الدُّنْيَا دنیا
113	يَخْتَلِفُونَ اختلاف کرتے	102	مَثُوبَةٌ ٹھکانہ	96	أَحْرَصَ زیادہ حریص	85	الْقِيَامَةِ قیامت
114	أَظْلَمَ بڑا ظالم	104	رَاعِنَا خیال رکھیے ہمارا	96	أَشْرَكُوا (انہوں نے) شرک کیا	85	يُرْدُونَ وہ لوٹائے جائیں گے
114	مَنْعَ روکا	104	مَتَّوَجِهٍ ہوں (دیکھیے)	96	يَوْمٌ چاہتا ہے	86	يُخَفَّفُ ہلکا کیا جائے گا
114	مَسْجِدٍ مسجدیں	104	انظُرْنَا ہماری طرف	96	يُعَمَّرُ عمر دیا جائے	87	قَفَيْنَا ہم نے پے در پے بھیجے
114	وَسَعَى اور کوشش کی	104	مَتَّوَجِهٍ ہوں (دیکھیے)	96	أَلْفٌ ہزار، 1000	87	الرُّسُلِ رسول (جمع)
114	خَوَّابِيهَا وہ انی اسکی	104	مَتَّوَجِهٍ ہوں (دیکھیے)	96	سَنَةٌ سال	87	عِيسَى عیسیٰ علیہ السلام
					96	مُرْحَزِجِهِ دور کرنے والا اسکو	

114	حَايِفِينَ	ڈرتے ہوئے،	124	إِمَامًا	امام	128	مُسْلِمَةً	فرمانبردار (fg)
115	الْمَشْرِقِ	ڈرنے والے	124	ذُرِّيَّتِي	میری اولاد	128	وَأَرَانَا	اور دکھا ہمیں
115	وَالْمَغْرِبِ	مشرق	124	لَا يَنَالُ	نہیں پہنچتا	128	مَنَابِكُنَا	جج کے طریقے
115	فَأَيْنَمَا	اور مغرب	125	الْبَيْتِ	وہ گھر، خانہ کعبہ	128	تُب عَلَيْنَا	ہمارے
115	تَوَلَّوْا	سو جس طرف	125	مَنَابِةٌ	اجتماع کی جگہ	129	وَابْعَثْ	توبہ قبول فرما ہماری
115	فَتَمَّ	تم منہ کرو	125	أَمْنًا	امن کی جگہ	129	وَالْحِكْمَةَ	اور بھیج
115	وَأَسِعْ	تو اس طرف	125	مَقَامِ	مقام ابراہیم	129	وَالْحِكْمَةَ	اور حکمت (دانائی)
116	وَلَدًا	وسعت والا	125	إِبْرَاهِيمَ	مقام ابراہیم	129	وَيُزَكِّيهِمْ	اور انہیں پاک
116	قَانِثُونَ	پیٹا	125	مُصَلَّى	نماز کی جگہ	129	الْعَزِيْزِ	کرے
117	بَدِيْعٍ	زیر فرمان،	125	عَهْدَنَا	ہم نے حکم دیا	129	يِرْعَبُ عَنْ	غالب
117	إِذَا قَضَىٰ	فرمانبردار	125	إِسْمَاعِيلَ	اسماعیل علیہ السلام	130	اصْطَفَيْنَاهُ	منہ موڑے
117	كُنْ	پیدا کرنے والا	125	طَهْرًا	پاک رکھو (تم	130	الصَّالِحِينَ	ہم نے چن لیا اسکو
117	فَيَكُونُ	جب فیصلہ کرتا ہے	125	لِلطَّائِفِينَ	دونوں)	131	أَسْلِمَ	نیوکار (pl)
118	يُكَلِّمُنَا	ہو جا	125	وَالْعَاكِفِينَ	طواف کرنے والوں	131	وَوَصَّىٰ	سر جھکا دے
118	تَأْتِينَا	تو وہ ہو جاتا ہے	125	وَالْعَاكِفِينَ	کیلیے	131	يَعْقُوبَ	اور وصیت کی
118	قَدْ بَيَّنَّا	بات کرتا ہم سے	125	وَالزُّكَّعِ	اور اعکاف کرنے	131	فَلَا تَمُوتُنَّ	یعقوب علیہ السلام
119	أَرْسَلْنَاكَ	آئی ہمارے پاس	125	وَالزُّكَّعِ	والے	133	حَضَرَ	پس تم ہرگز نہ مرنا
119	بَشِيرًا	ہم نے واضح کر دیں	125	وَالزُّكَّعِ	اور رکوع کرنے	133	إِلَهَكَ	آئی
119	نَذِيرًا	ہم نے بھیجا آپ کو	125	الشُّجُودِ	والے	133	إِسْحَاقَ	معبود تیرا
119	أَصْحَابِ	خوشخبری دینے والا	126	بَلَدًا	سجدہ کرنے والے	134	قَدْ خَلَتْ	باپ دادا تیرے
119	الْجَحِيمِ	ڈرانے والا	126	آمِنًا	شہر	134	وَلَا تُسْأَلُونَ	اسحاق علیہ السلام
120	لَنْ تَرْضَىٰ	دورخ والے	126	أَهْلُهُ	امن والا	134	حَنِيفًا	گزر گئی
120	تَتَّبِعَ	ہرگز راضی نہ ہوں	126	فَأَمْتِغُهُ	اسکے رہنے والے	135	الْمُشْرِكِينَ	اور نہ تم سے پوچھا
120	مِلَّتَهُمْ	مجھے	126	أَضْطَرُّهُ	تو میں نفع دوں گا	135	الْمُشْرِكِينَ	جائے گا
120	أَهْوَاءَهُمْ	آپ پیروی کریں	126	أَضْطَرُّهُ	اسکو	135	الْمُشْرِكِينَ	ایک اللہ کا ہو جانے
124	ابْتَلَىٰ	دین انکا	127	الْمَصِيْرِ	میں مجبور کروں گا	136	الْأَسْبَاطِ	والا
124	إِبْرَاهِيمَ	خوابشات انکی	127	الْقَوَاعِدِ	اسکو	136	الْمُشْرِكِينَ	شرک کرنے والے
124	بِكَلِمَاتٍ	آزمایا	127	تَقَبَّلْ	لوٹنے کی جگہ	136	الْمُشْرِكِينَ	اولاد یعقوب علیہ
124	فَاتَمَّتْ	ابراہیم علیہ السلام	127	السَّمِيعِ	بنیادیں	136	الْمُشْرِكِينَ	السلام
124	فَاتَمَّتْ	چند باتوں سے	127	السَّمِيعِ	قبول فرمالمے	137	فَقَدْ اهْتَدَوْا	دیا گیا
		توپوری کر دیں	128	مُسْلِمِينَ	سننے والا	137	فَقَدْ اهْتَدَوْا	نہیں ہم فرق کرتے
		انہیں	128	أُمَّةٌ	فرمانبردار (pl)	137	شِقَاقٍ	تو وہ ہدایت پا گئے
			128	أُمَّةٌ	امت	137	شِقَاقٍ	صد

فَسَيَكْفِيكَ  
ہوگا آپ کیلئے انکے  
ہم

صِبْغَةً  
رنگ

أَحْسَنُ  
زیادہ اچھا

عَابِدُونَ  
عبادت کرنے

وَالِ  
والے

أَتَحَاجُّونَنَا  
کیا تم جھگڑا کرتے ہو

ہم سے

أَعْمَالُنَا  
اعمال ہمارے

مُخْلِصُونَ  
خالص لوگ (pl)

كُتِمَ  
چھپایا

((((( پارہ-2))))))

142  
پھیر دیا انکو

142  
قَبَلْتَهُمْ

143  
وَسَطًا

143  
معتدل، بیچ کی راہ

143  
يَنْقَلِبُ

143  
عَقِبِيهِ

143  
لِيُضِيعَ

143  
إِيمَانَكُمْ

143  
لَوْزُوفٌ

144  
تَقَلَّبُ

144  
شَطْرَ

144  
الْمَسْجِدِ

144  
الْحَرَامِ

144  
أُوتُوا

144  
الْكِتَابِ

147  
الْمُؤْمَرِينَ

148  
وَجْهَةً

148  
مَوْلِيَهَا

148  
فَاسْتَبِقُوا

جاؤ





224 تَبَرُّوا	ہلا دیے گئے	214 زُلْزِلُوا	اور بچا ہمیں	201 وَقِنَا	ہلاکت	195 التَّهْلُكَةِ
225 اللُّغُو	کب	214 مَتَى	حصہ	201 نَصِيبٌ	عمرہ	196 الْعُمْرَةَ
225 حَلِيمٌ	جنگ	216 الْقِتَالِ	جلد حساب لینے والا	202 سَرِيعٌ	تم روک دیے جاؤ	196 أُخْصِرْتُمْ
226 يُؤَلُّونَ	ناگوار	216 كُرْهًا		202 الْحِسَابِ	میسر آئے	196 اسْتَيْسَّرَ
226 تَرْتَبُصُ	ممکن ہے	216 عَسَى	جلدی کی	203 تَعَجَّلَ	قربانی	196 الْهَدْيِ
226 فَأَوُوا	بری	216 شَرُّ	تاخیر کی	203 تَأَخَّرَ	اور نہ منڈاؤ	196 وَلَا تَحْلِفُوا
227 عَزَمُوا	روکنا	217 صَدُّ	جمع کیے جاؤ گے	203 تُحْشِرُونَ	سر تمہارے (رأس):	196 زُرُّوسِكُمْ
227 الطَّلَاقِ	بہمشہ رہیگے (نہ زائل	217 لَا يَزَالُونَ	بھلی معلوم ہوتی	204 يُعْجِبُكَ	(sg)	196 يَبْلُغُ
228 ثَلَاثَةَ فُرُوعٍ	ہوگے، نہ ٹلیں گے)	217 إِنَّ اسْتَطَاعُوا	ہے تمہیں	204 وَيُشْهِدُ اللّٰهَ	جگہ اسکی	196 مَحِلَّهُ
228 فِي أَرْحَامِهِنَّ	انگروہ کر سکیں	217 يَزِيدُ	اور گواہ بناتا ہے اللہ	204 كُو	تکلیف	196 أَدَى
228 بُعُولَتِهِنَّ	پھر جائے	217 حَبِطَتْ		204 أَلَدُ الْخِصَامِ	قربانی	196 نُسْكَ
228 أَحَقُّ	ضائع ہو گئے	218 هَاجَرُوا	سخت جھگڑالو	205 التَّسَلُّ	تم امن میں ہو	196 أَمِنْتُمْ
228 رَدِّهِنَّ	انہوں نے ہجرت	218 جَاهِدُوا	نسل	206 الْعِزَّةُ	فائدہ اٹھائے	196 تَمَتَّعَ
228 وَلِلرِّجَالِ	کی	218 يَزُجُونَ	عزت (غرور)	206 فَحَسْبُهُ	نہ پائے	196 لَمْ يَجِدْ
228 دَرَجَةً	انہوں نے جہاد کیا	219 الْخَمْرِ	تو کافی ہے اسکو	206 جَهَنَّمَ	تین	196 ثَلَاثَةَ
229 مَرَّتَانِ	وہ امید رکھتے ہیں	219 الْمَيْسِرِ	جہنم	206 الْمِهَادُ	پورے	196 كَامِلَةً
229 اِمْسَاكُ	شراب	219 الْعَفْوُ	ٹھکانا	207 يَشْرِي	سخت عذاب والا	196 شَدِيدٌ
229 رَخِصْتُمْ	جو	219 تَتَفَكَّرُونَ	بیچ ڈالتا ہے	207 مَرَضَاتِ اللّٰهِ	رضا اللہ کی	197 مَعْلُومَاتٌ
229 آتَيْتُمُوهُنَّ	زائد از ضرورت	220 اِصْلَاحٌ	پورے پورے	208 كَافَّةً	پورے پورے	197 فَرَضَ
229 اِفْتَدَتْ	تم غور و فکر کرو	220 تَحَالُطُوهُمْ	تم ڈگمگائے	209 زَلَلْتُمْ	تھم ڈگمگائے	197 وَلَا فُسُوقٌ
229 يَتَعَدَّ	اصلاح	220 لَأَعْنَتِكُمْ	بیا	210 هَلْ	بیا	197 وَلَا جِدَالٌ
230 يَتَرَا جَعًا	تم ملا لو انکو	221 لَا تَنْكِحُوا	سائبانوں میں	210 فِي ظِلِّ	سائبانوں میں	197 تَرَوُدُوا
230 كَرِيں	ضرور مشقت میں	221 أُمَّةٌ	طے ہو جائے	210 قُضِيَ	طے ہو جائے	198 تَتَبَعُوا
230 اِنْ ظَنَّا	ڈالتا تم کو	221 لَا تَنْكِحُوا	تمام کام	210 الْأُمُورُ	تمام کام	198 أَفْضَتْكُمْ
231 سَرَّحُوهُنَّ	لوٹدی	221 يَتَذَكَّرُونَ	کس قدر	211 كَمْ	کس قدر	198 عَرَفَاتٍ
231 عورتوں کو	نہ نکاح کرواؤ	222 الْمَحِيضِ	آراستہ کی گئی	212 زَيْنٌ	آراستہ کی گئی	198 الْمَشْعَرِ
231 نهيست کرتا ہے تم	نہ نکاح کرواؤ	222 فَاعْتَرِلُوا	وہ ہتے ہیں	212 يَسْخَرُونَ	وہ ہتے ہیں	198 الْحَرَامِ
231 كُو	نہ نکاح کرواؤ	223 قَدَمُوا	خوشخبری دینے	213 مُبَشِّرِينَ	خوشخبری دینے	198 وَاسْتَغْفِرُوا
232 لَا تَعْضُلُوهُنَّ	پس تم الگ رہو	224 عُرْضَةً	والے	213 مُنْذِرِينَ	والے	199 قَضَيْتُمْ
232 كُو	آگے بھیجو	224 أَيْمَانِكُمْ	ڈرانے والے	214 حَسِبْتُمْ	ڈرانے والے	200 آتِنَا
232 إِذَا تَرَاصُوا	نشانه	224 أَيْمَانِكُمْ	تم خیال کرتے ہو	214 مَسْتَهْتُمُ	تم خیال کرتے ہو	201 حَسَنَةً
232 كُو	نشانه		پہنچی انہیں		پہنچی انہیں	
232 زِيَادَةً سَتْرًا	نشانه					



232	أَطَهَّرُ	زیادہ پاکیزہ	235	تَفَرُّصُوا	تم نے مقرر کیا	248	هَازُونَ	ہاورن علیہ السلام
233	يُزْضِعْنَ	دودھ پلائیں	235	فَرِيضَةً	مہر	248	تَحْمِلُهُ	اٹھائیں گے اسے
233	حَوْلَيْنِ	دو سال	235	مَتَّعُوهُنَّ	خرچ دو ان عورتوں کو	249	فَصَلَ	باہر نکلا
233	كَامِلَيْنِ	پورے دو	235	الْمُوسِعِ	خوش حال، وسعت والا	249	الْجُنُودِ	لشکر
233	الْمَوْلُودِ لَهُ	جس کا بچہ (باپ)	235	قَدْرُهُ	حیثیت اسکی	249	مُجْتَلِيكُمْ	آزمائش کرنے والا
233	كِسْوَتُهُنَّ	لباس ان عورتوں کا	235	الْمُقْتَبِرِ	بتگدست	249	لَمْ يَطْعَمَهُ	نہ چکھا اسے
233	لَا تُكَلِّفُ	نہیں تکلیف دی جاتی	237	نِصْفِ	آدھا	249	اعْتَرَفَ	چلو بھر لے
233	وُسْعَهَا	وسعت اس (نفس) کی	237	عُقْدَةُ النِّكَاحِ	گرہ نکاح کی	249	عُرْفَةً	ایک چلو
233	لَا تُضَارَّ	نہ نقصان پہنچایا جائے	238	حَافِظُوا	حفاظت کرو	249	جَاوِزَةً	پار ہوئے اسکی
233	الْوَارِثِ	وارث	239	قَانِتِينَ	فرمانبردار (pl)	249	لَا طَاقَةَ	نہیں طاقت
233	فِصَالًا	دودھ چھڑانا	239	زُكْبَانًا	سوار	249	جَالُوتَ	ایک ظالم اور مشرک بادشاہ
233	عَنْ تَرَاضٍ	آپس کی رضامندی سے	240	مَتَاعًا	نان نفقہ	249	فَقِيَّةٍ قَلِيلَةٍ	جماعتیں چھوٹی
233	تَشَاوِرٍ	باہم مشورہ	241	الْحَوْلِ	سال	249	عَلَبْتِ	غالب ہوئیں
233	تَسْتَرْضِعُوا	تم دودھ پلاؤ	245	يُقْرِضُ	قرض دے	250	بَرَزُوا	آمنے سامنے ہوئے
233	سَلَّمْتُمْ	تم حوالہ کر دو	245	فِيضَاعِفَهُ	پس وہ بڑھا دے اسے	250	أَفْرَعُ	ڈال دے
234	يُتَوَفَّوْنَ	وفات پا جائیں	245	عَسِيْتُمْ	کی گنا	250	ثَبَّتْ	جمادے
234	يَذَرُونَ	چھوڑ جائیں	245	كَثِيرَةً	زیادہ	251	فَهَرَمُوهُمْ	پھرا انھوں نے
234	أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ	چار مہینے	245	يَقْبِضُ	تنگی کرتا ہے	251	دَاوُدَ	داود علیہ السلام
234	أَجَلَهُنَّ	مدت (عدت) ان عورتوں کی	245	يَبْسُطُ	فراخی کرتا ہے	251	دَفْعُ	ہٹانا
234	خَبِيرٍ	باخبر	246	الْمَلَا	جماعت	251	لَفَسَدَتِ	ضرور تباہ ہو جاتی
235	عَرَضْتُمْ	تم اشارہ میں دو	246	مَلِكًا	ایک بادشاہ	252	الْمُرْسَلِينَ	(رسول sg)، بھیجے ہوئے
235	خِطْبَةٍ	پیغام نکاح	246	عَسِيْتُمْ	ہو سکتا ہے کہ تم، ممکن ہے کہ تم			
235	أَكْنَسْتُمْ	تم چھپاؤ	247	طَالُوتَ	ایک مومن سردار کا نام			
235	لَا تُوَاعِدُوهُنَّ	نہ وعدہ کرو ان عورتوں سے	247	سَعَةً	وسعت			
235	لَمْ تَمْسُوهُنَّ	تم نے ہاتھ لگایا ان عورتوں کو	247	بَسْطَةً	وسعت			
			247	الْجِسْمِ	جسم			
			248	سَكِينَةً	سامان تسکین			
			248	بَقِيَّةً	بچی ہوئی			

((( پارہ-3 )))

253	مَا اقْتَتَلُوا	نہ باہم لڑتے	259	كَمْ لَبِثْتُمْ	کتنی دیر تو رہا
254	لَا يَبِيعُ	نہ خرید و فروخت	259	لَمْ يَتَسَنَّهٖ	نہیں سرگیا وہ
254	لَا خُلَّةٌ	نہ دوستی	259	حِمَارِكَ	گدھاتیرا
255	الْحَيِّ	زندہ	259	العِظَامِ	ہڈیاں
255	الْقِيَوْمِ	تھامنے والا	259	نُنشِزُهَا	ہم جوڑتے ہیں
255	سِنَةٌ	اونگھ	259	نَكْشُوهَا	انہیں
255	نَوْمٌ	نیند	259	نَكْشُوهَا	ہم پہناتے ہیں
255	لَا يُحِيطُونَ	نہیں احاطہ کرتے	260	لَيَظْمِنَنَّ	تا کہ اطمینان
255	كُرْسِيَّهٖ	کرسی اسکی	260	الطَّيْرِ	ہو جائے
255	لَا يُؤْوِدُهُ	نہیں تھکاتی اسکو	260	فَضْرَهُنَّ	پرندے
255	حِفْظُهُمَا	حفاظت ان دونوں	260	جَبَلٍ	پہاڑ
256	لَا اِكْرَاهَ	نہیں زبردستی	260	جُزْءًا	ٹکڑے
256	تَجَبَّنَ	جدا ہوگئی، واضح	260	سَعِيًّا	دوڑتے ہوئے
256	الرُّشْدَ	ہدایت	261	حَبْتَةٍ	ایک دانہ
256	الْغِيَّ	گمراہی	261	اُنْبِتَتْ	اُگیں
256	الطَّاغُوتِ	گمراہ کرنے والا	261	سَبَّعَ سَنَابِلَ سَاتِ بَالِيں	بڑھاتا ہے
256	اسْتَمْسَكَ	تھام لیا	261	يُضَاعَفُ	نہیں بعد میں
256	الْعُرْوَةَ	مضبوط حلقہ	262	لَا يُشْبِعُونَ	رکتے، نہیں پیچھے
256	لَا اِنْفِصَامَ	نہیں ٹوٹنا	262	مَتًّا	کوئی احسان
257	النُّورِ	روشنی	262	غَنِيٌّ	بے نیاز
258	حَاجِّ	جھگڑا کیا	264	لَا تُبْطَلُوا	نہ ضائع کرو
258	الشَّمْسِ	سورج	264	رِثَاءَ	دکھلاوا
258	فَبُهَّتْ	تو وہ حیران رہ گیا	264	صَفْوَانٍ	چکنا پتھر
259	مَرًّا	گزرا	264	تُرَابٌ	مٹی
259	خَاوِيَةً	گری پڑی ہوئی	264	وَابِلٌ	تیز بارش
259	عَلَى	چھتوں پر اسکی	264	صَلْدًا	صاف
259	عُرُوشَهَا	کیوں کر	264	لَا يَقْدِرُونَ	نہیں وہ قدرت
259	أَنَّيَّ	کیوں کر	265	تَنْثِيثًا	رکتے
259	مِئَةَ عَامٍ	100 سال			ثبات و یقین
274	عَلَانِيَةً	بلندی	265	رَبَوْرَةً	بلندی
275	الرِّبَا	پھل اسکا	265	أَكْلَهَا	پھل اسکا
275	يَتَخَبَّطُهُ	دوگنا	265	ضِعْفَيْنِ	دوگنا
275	هَؤُلَاءِ	تو پھوار	265	فَطْلٌ	تو پھوار
275	مَا سَلَفَ	کھجور	266	نَخِيلٍ	کھجور
275	وَأَمْرُهُ	انگور	266	أَعْنَابٍ	انگور
276	يَمْحَقُ	بڑھاپا	266	الْكَبِيرِ	بڑھاپا
276	يُزِيهِ	بہت کمزور	266	ضِعْفَاءَ	بہت کمزور
276	كَفَّارٍ	بگولا	266	إِعْصَاؤُ	بگولا
278	ذُرُوءًا	تو وہ جل گئی	266	فَاحْتَرَقَتْ	تو وہ جل گئی
279	فَأَذْنُوبًا	نہ ارادہ کرو	267	لَا تَمَيَّمُوا	نہ ارادہ کرو
279	بِحَرْبٍ	گندی چیز	267	الْخَبِيثَ	گندی چیز
279	زُرُوشِ	لینے والے اسکو	267	آخِذِيهِ	لینے والے اسکو
279	أَمْوَالِكُمْ	تم چشم پوشی کرو	267	تُعْمِضُوا	تم چشم پوشی کرو
280	ذُو عُسْرَةٍ	خوبیوں والا	267	حَمِيدٌ	خوبیوں والا
280	فَنظَرَةٌ	ڈراتا ہے تم کو	268	يَعِدُّكُمْ	ڈراتا ہے تم کو
280	تَصَدَّقُوا	بتگدستی	268	الْفَقْرَ	بتگدستی
282	تَدَايِنِشُمْ	تم نذر مانو	270	نَذَرْتُمْ	تم نذر مانو
282	بِدَيْنٍ	مددگار (pi)	270	أَنْصَارٍ	مددگار (pi)
282	وَلِيْمَلِيلٍ	اگر ظاہر (علانیہ) دو	271	إِنْ تُجَدُّوْا	اگر ظاہر (علانیہ) دو
282	لَا يَبْخَسُ	تو اچھی بات	271	فِنِعْمًا	تو اچھی بات
282	لَا يَبْخَسُ	پہنچاؤ اسکو	271	تُؤْتُوْهَا	پہنچاؤ اسکو
282	اسْتَشْهَدُوا	یکفُرُ عَنْكُمْ دور کر دے گا تم سے	271	يُكْفِرُ عَنْكُمْ	یکفُرُ عَنْكُمْ دور کر دے گا تم سے
282	اِمْرَأَتَانِ	تمہارے گناہ	271	سَيِّئَاتِكُمْ	تمہارے گناہ
282	تَرْضَوْنَ	اللہ کی رضا	272	وَجِهَ اللّٰهِ	اللہ کی رضا
282	تَضَلَّ	پورا لے گا	272	يُؤَفَّ	پورا لے گا
282	فَشَذَّكِرَ	نہیں طاقت رکھتے	273	لَا	نہیں طاقت رکھتے
282	لَا تَسْأَلُوْا	چنانا پھرنا	273	يَسْتَطِيْعُونَ	چنانا پھرنا
282	صَغِيرًا	سوال سے بچنا	273	صَرَبًا	سوال سے بچنا
282	أَقْسَطُ	چہروں سے انکے	273	التَّعَفُّفِ	چہروں سے انکے
282	أَقْرَمُ	لپٹ کر	273	بِسِيْمَاهُمْ	لپٹ کر
282	أَذْنَى	پوشیدہ	273	إِلْحَافًا	پوشیدہ
282	أَلَّا تَرْتَابُوا	کہ نہ تم شبہ میں پڑو	274	سِرًّا	کہ نہ تم شبہ میں پڑو

282	حَاضِرَةٌ	حاضر (ہاتھوں)	7	أُمُّ الْكِتَابِ	کتاب کی اصل	30	مُحَضَّرًا	موجود	45	الْمُقَرَّبِينَ	مقرب (جمع)
		ہاتھ)	7	زَيْعٌ	کچی	30	أَمَدًا	فاصلہ	46	الْمُهَدِّدِ	گہوارہ
282	تُدِيرُونَهَا	تم لیتے رہتے ہو	7	تَأْوِيلُهُ	اسکا مطلب	33	آلِ عِمْرَانَ	عمران کا گھرانہ	46	كَهْلًا	پختہ عمر
		اسے	7	الرَّاسِخُونَ	مضبوط	35	فِي بَطْنِي	میرے پیٹ میں	49	كَهَيْئَةِ	مانند شکل
282	لَا يُضَارَّ	نہ نقصان کرے	8	لَا تُزْعُ	مت پھیر	35	مُحَرَّرًا	آزاد کیا ہوا	49	الطَّيْرِ	پرندہ
283	رِهَانٌ	گروی رکھنا	8	الْوَهَّابِ	سب سے بڑا دینے والا	36	وَصَعْتُهَا	جنم دیا میں نے اسکو	49	فَأَنْفُخُ	پھر پھونک مارتا ہوں
283	مَقْبُوضَةٌ	قبضہ میں	9	الْمِيعَادِ	وعدہ	36	سَمَّيْتُهَا	نام رکھا میں نے اسکا	49	الْأَكْمَةَ	مادر زاد اندھا
283	أَمِنَ	اعتبار کرے	11	كَدَّابٍ	جیسے معاملہ	37	كَفَّلَهَا	سپردہ کیا اسکو	49	وَالْأَبْرَصِ	اور کوڑھی
283	فَلْيُؤَدِّ	تو چاہیے کہ لوٹا دے	13	فِنَتَيْنِ	دو گروہ	37	زَكَرِيَّا	زکریا علیہ السلام	49	تَذَخَّرُونَ	تم ذخیرہ کرتے ہو
283	أَوْثَمِينَ	امین بنایا گیا	13	الْتَقَيْنَا	باہم مقابل ہوئے	37	الْمُخْرَبِ	محراب (حجرہ)	52	أَحْسَٰ	معلوم کیا
283	أَمَانَتَهُ	امانت اسکی	13	رَأَى الْعَيْنِ	کھلی آنکھوں کا دیکھنا	37	هُنَالِكَ	وہیں	52	الْحَوَارِثُونَ	حواری (جمع)
284	تُخْفَوُهُ	تم چھپاؤ اسکو	13	عِبْرَةٌ	عبرت	38	يُصَلِّي	نماز پڑھے	61	نَبْتَهُلٍ	ہم التجا کریں گے
284	يُحَاسِبِكُمْ	حساب لے گا تمہارے	14	الشَّهَوَاتِ	مرغوب چیزیں	39	بِصِحِّي	یکجا علیہ السلام کی	62	الْقَصَصِ	بیان
284	يُعَذِّبُ	عذاب دے گا	14	الْقَنَاطِيرِ	ڈھیر	39	كَلِمَةٍ	حکم، بات	64	تَعَالَوْا	آؤ
285	أَطَعْنَا	ہم نے اطاعت کی	14	الْمُقَنْطَرَةِ	جمع کیے ہوئے	39	سَيِّدًا	سر دار	64	أَرْبَابًا	رب (جمع)
285	عُقْرَانِكَ	تیری بخشش	14	الذَّهَبِ	سونا	39	حَضُورًا	نفس کو قابو میں رکھنے والا	68	أَوْلَىٰ	زیادہ مناسب
286	لَا يَكْلِفُ	نہیں تکلیف دیتا	14	الْفِضَّةِ	چاندی	39	عَلَامٌ	لڑکا	75	تَأْمَنَهُ	تم امانت رکھیں اسکو
286	اللَّهُ		14	الْخَيْلِ	گھوڑے	40	عَاقِرٌ	بانجھ	75	دِينَارٍ	دینار
286	إِنْ نَسِينَا	اگر ہم بھول جائیں	14	الْمُسُومَةِ	نشان زدہ	40	رَمَزًا	اشارہ	75	مَا دُمْتَ	جب تک رہیں آپ
286	أَخْطَانَا	ہم چوکیں	14	الْأَنْعَامِ	مویشی	41	بِالْعَشِيِّ	شام کو	78	يَلُؤُونَ	مروڑتے ہیں
286	إِصْرًا	بوجھ	14	الْمَاءِ	ٹھکانا	41	الْإِبْكَارِ	صبح	79	النُّبُورَةِ	نبوت
286	لَا تُحْمِلُنَا	نہ ہم سے اٹھوا	15	رِضْوَانٍ	خوشنودی	41	طَهْرِكَ	پاک کیا تجھ کو	79	رَبَّنَا نَسِينِ	اللہ والے
286	أَغْمُرْنَا	بخش دے ہمیں	17	بِالْأَسْحَارِ	پچھلی رات میں	42	أَفْتِي	تو فرماں برداری کر	79	تَذَرُسُونَ	تم پڑھتے ہو
286	أَزْحَمْنَا	رحم کر ہم پر	23	نَصِيبًا	حصہ	43	أَنْبَاءِ	خبریں	81	إِصْرِي	میرا عہد
286	مَوْلَانَا	آقا ہمارا	24	غَزَاهُمْ	انہیں دھوکے میں ڈال دیا	44	أَقْلَامُهُمْ	اپنے قلم	83	طُوعًا	خوشی سے
			26	تَنْزِعُ	تو چھین کے	44	يَكْفُلُ	پرورش کرے	83	كَرْهًا	ناخوشی سے
3	التَّوْرَةَ	تورات	26	تُعَزُّ	تو عزت دے	44	إِذْ	جب وہ جھگڑتے تھے	90	أَزْدَادُوا	بڑھتے گئے
3	الْإِنْجِيلِ	انجیل	26	تُذِلُّ	تو ذلیل کرے	44	يَخْتَصِمُونَ	باہر و	91	مِلْءِ الْأَرْضِ	زمین بھر
4	ذُو انْتِقَامٍ	بدلہ لینے والا	27	تُولِجُ	تو داخل کرتا ہے	44	وَجِيهًا	باہر و	91	أَفْتَدَىٰ	بدلہ دے
6	يُصَوِّرُكُمْ	صورت بناتا ہے	28	يُحَدِّثُكُمْ	ڈراتا ہے تمہیں	45					
7	مُحْكَمَاتٌ	تمہاری	28	تُقَاةً	بچاؤ						
		محکم (پختہ)									



188	بِمَفَازَةٍ	رہا شدہ	6	فَلْيَسْتَعْفِفْ	بچتا رہے	6	کرو
191	فُعُودًا	بیٹھے ہوئے	6	حَسِيبًا	حساب لینے والا	6	جگہ
191	جُنُوبِهِمْ	اپنی کروٹیں	6	فَأَشْهِدُوا	پس گواہ کر لو ان پر	6	بہتان
193	الْأَبْرَارِ	نیک (لوگ)	6	عَلَيْهِمْ		6	پہنچ چکا
194	فَأَسْتَجَابَ	تو اس نے قبول کیا	7	قَلَّ	تھوڑا	7	غضب کی بات
195	أَوْذُوا	ستائے گئے	7	كَثُرَ	زیادہ	7	تمہاری بیٹیاں
195	حُسْنُ	اچھا ثواب	8	الْقِسْمَةَ	تقسیم	8	تمہاری بہنیں
196	الثَّوَابِ	شہر (جمع)	9	سَدِيدًا	سیدھی	9	تمہاری پھوپھیاں
200	الْبِلَادِ	مقابلہ میں مضبوط	10	سَيَصِلُونَ	عنقریب داخل	10	تمہاری خالائیں
200	صَابِرُونَ	رہو	10	سَعِيرًا	آگ (دورخ)	10	تمہاری بیٹیاں
200	رَابِطُونَ	جنگ کی تیاری کرو	11	الْأُنثَيَيْنِ	دو عورتیں	11	تمہاری پرورش
			11	ثُلثًا	دو تہائی	11	میں
			11	لِأَبَوَيْهِ	ماں باپ کیلئے	11	تم نے صحبت کی ان
1	تَسَاءَلُونَ	آپس میں مانگتے ہو	11	الشُّدُشِ	چھٹا حصہ	11	سے
1	رَقِيبًا	نگہبان	11	الثُّلُثِ	ایک تہائی	11	خالیاں
2	حُوبًا	گناہ	11	إِخْوَةَ	کی بہن بھائی	11	أَصْلَابِكُمْ
2	تَتَّبِعُوا	تم بدلو	11	لَا تَدْرُونَ	تم کو نہیں معلوم	11	تمہاری پشت
3	طَابَ	پسند ہو	11	نَفْعًا	نفع	11	
3	مَثْنَى	دو دو	11	فَرِيضَةً	حصہ مقرر کیا ہوا	11	
3	ثَلَاثَ	تین تین	12	الرُّبْعِ	ایک چوتھائی	12	
3	رُبَاعَ	چار چار	12	الثُّمْنِ	آٹھواں حصہ	12	
3	مَلَكَتْ	لوٹدی جسکے تم	12	كَالَالَةِ	جسکا باپ بیٹا نہ ہو	12	
3	أَيْمَانِكُمْ	مالک ہو	12	غَيْرِ مُضَارٍّ	نقصان نہ پہنچانا	12	
3	تَعُولُوا	تم جھک پڑو	12	شُرَكَاءَ	شریک	12	
4	صَدَقَاتِهِنَّ	ان کے مہر	12	وَصِيَّةَ	حکم	12	
4	نِحْلَةً	خوشی سے	14	يَتَعَدَّ	بڑھ جائے	14	
4	هَنِيئًا	مزیدار	15	وَاللَّاتِي	اور جو عورتیں	15	
4	مَرِيئًا	خوش گوار	16	وَاللَّدَانِ	اور جو دو مرد	16	
6	أَنْسْتُمْ	تم پاؤ	17	بِجَهَالَةٍ	نادانی سے	17	
6	رُشْدًا	صلاحیت	17	مِنْ قَرِيبٍ	جلدی سے	17	
6	فَادْفَعُوا إِلَى	تو حوالے کرو	19	كَرْهًا	زبردستی	19	
6	بِدَارًا	جلدی جلدی	19	عَاشِرُوهُنَّ	ان سے گزران	19	
6	يَكْتَبُرُوا	وہ بڑے ہو جائیں					

		(( ( ( ( ( 5-پارہ )))) ))			
73	يَا لَيْتَنِي اءْ كَاش مِيں	49	يُزُجِّي پاك بنا تا ہے	35	حَكَمًا ايك منصف
75	الْمُسْتَضْعُ كزور بنا كر ركھے	49	فَتِيلاً دھاگے برابر	35	يُوقِفِي موافقت كر دے
76	فِيْنِ گئے	51	بِالْحَبِيتِ بت (جمع)	36	الْجَارِ ہمسايہ
76	صَعِيْفًا كزور	51	أَهْدَى زيادہ راہ راست پر	36	الْجُنْبِ اجنبی
77	كُفُوًا روكت لو	53	نَقِيْرًا تل برابر	36	بِالْحَبِيتِ ہم مجلس
77	لَوْلَا اَحْزَنْتَنَا كيون نہ ہمیں	55	صَدًّا رُكَّارہا	36	مُحْتَالًا اترانے والا
77	ڈھيل دي	56	نَضَجَتْ پك جائیں گی	36	فَحُوْرًا بڑمارنے والا
78	يُذِرْكُكُمْ تمہیں پالے گی	56	جُلُوْدُهُمْ ان کی کھالیں	37	بِالْبُخْلِ بخل
78	فِي بُرُوجِ برجوں ميں	57	ظِلًّا چھاؤں	38	قَرِيْنًا ساتھی
78	مُشِيْدَةً مضبوط	57	ظَلِيْلًا كھنی	40	مِثْقَالِ برابر
81	طَاعَةً حكم مانا (ہم نے)	58	تُوْدُوًا پہنچادو	40	ذَرَّةِ ذرہ
81	بَيَّتِ رات كو مشورہ	58	الْأَمَانَاتِ امانتیں	42	لَوْ تُسْوَى كاش برابر كر دي
81	كرتا ہے	59	أُولِي الْأَمْرِ صاحب حكومت	42	جَاءَ جائے
82	أَفْلًا پھر كيا وہ غور نہيں	59	تَأْوِيْلًا انجام	42	حَدِيثًا كوئی بات
82	يَتَدَبَّرُونَ كرتے	60	يَزْعُمُونَ دعوي كرتے ہيں	43	شُكَاوِي نشہ
82	اِخْتِلَافًا اختلاف	60	يَتَحَاكَمُونَ مقدمہ لے جائیں	43	جُنْبًا غسل کی حاجت ميں
83	أَذَاعُوا مشہور كر ديتے ہيں	62	يَحْلِفُونَ قسم كھاتے ہوئے	43	عَابِرِي عابري
83	يَسْتَنْبِطُونَهُ تحقيق كر ليا كرتے	63	قَوْلًا بَلِيْغًا اثر كرنے والی بات	43	سَبِيْلٍ حالت سفر
83	اسكى	65	يُحَكِّمُوكَ آپ كو منصف	43	الْغَايِبِ جائے ضرورت
84	خَوِّضِ آمادہ كريں	65	بَنَائِيں بنائیں	43	لَا مَسْتُمْ تم پاس گئے
84	تَنْكِيلًا سزا دينا	65	شَجَرَ جھگڑا اٹھے	43	فَتَبَسَّمُوا تو تيمم كر
85	كِفْلًا بوجھ (حصہ)	65	خَوِّجًا كوئی تنگی	43	صَعِيْدًا مٹی
85	مُقِيْتًا قدرت ركھنے والا	65	يُسَلِّمُوا وہ تسليم كر لیں	43	فَأَمْسَحُوا مسح كر لو
86	حُبِيْتُمْ تمہیں دعادے	65	تَسْلِيْمًا خوشی سے	43	عَفْوًا معاف كرنيوالا
88	أَرْكَسَهُمْ انھیں الٹ ديا (اوندھا كر ديا)	66	تَشِيْتًا ثابت ركھنے والا	46	مَوَاصِيْعِهِ اسكى جگہ
90	يَصِلُونَ مل گئے ہيں (تعلق ركھتے ہيں)	67	وَإِذَا ميں	46	مُسْمِعٍ سنويا جائے
90	حَصْرَتِ تنگ ہو گئے	69	رَفِيْقًا دوست	46	لَيْتَا موڑ كر
90	سَلَطَهُمْ مسلط كر ديتا انكو	71	حَدْرِكُمْ اپنے بچاؤ ہتھيار	46	طَعْنًا طعنہ كی نيت سے
92	فَتَحْرِيْرُهُ تو آزاد كرے	71	فَانْفِرُوا پھر نكو	47	نَطْمِسِ ہم مٹا ديں
92	رَقِيْبَةً ايك گردن (غلام)	72	لِيَسْطَنَّنَّ ضرور دير لگا دے گا	49	يُزَكُّونَ پاك مقدس كہتے ہيں
92	خون بہا	73	مَوْدَّةً كوئی دوستی		
					24 وَالْمُحْصَنَاتِ اور خاوند والی
					24 تُّ عورتیں
					24 كِتَابِ اللّٰهِ اللہ كا حكم
					24 غَيْرَ نہ ہوس رانی
					24 مُسَافِحِينَ كرنے والے
					24 اسْتَمْتَعْتُمْ تم نفع (لذت) حاصل كر
					24 أُجُورُهُنَّ ان كے مہر
					24 فَرِيضَةً مقرر كيے ہوئے
					25 طَوْلًا مقدور
					25 فَتِيَاتِكُمْ تمہاری كينزيریں
					25 مُحْصَنَاتِ آزاد اور خاندانی مسلم عورتیں
					25 مُتَّخِذَاتِ آشناي كرنے والياں
					25 أَخْدَانٍ چوري چھپے
					25 أَحْصِيْنَ نكاح ميں آجائیں
					25 الْعَنَتِ تكليف (زنا، بدكارى)
					27 تَمِيْلُوا تم پھر جاؤ
					30 سَوْفَ عنقريب
					31 تَحْتَبِيْنُوا تم بچتے رہو
					31 كَبَّآئِرَ بڑے گناہ
					31 مُدْخَلًا عزت كا مقام
					33 مَوَالِي وارش
					33 عَقَدَتْ بندھ چكا
					34 قَوَامُونَ حاكم، نگران
					34 نُسُورَهُنَّ انكى بد خوئی
					34 اَهْجُورُهُنَّ ان كو تنہا چھوڑ دو
					34 الْمَصَاجِعِ خواب گاہوں ميں
					34 عَلِيًّا بڑا



تو وہ ضرور بد لیں	119	فَلْيَغْيِرَنَّ	وہ معاف کر دیں	92	يَصَدَّقُوا
گے			لگاتار	92	مُتَتَابِعِينَ
فریب	120	غُرُورًا	دانستہ، قصداً	93	مُتَعَمِّدًا
بھاگنے کی جگہ	121	مَحِيصًا	ڈالے	94	الْقَى
دوست	125	خَلِيلًا	سلام	94	السَّلَام
وہ حکم دریافت			اسباب، سامان	94	عَرَضَ
کرتے ہیں آپ	127	يَسْتَفْتُونَكَ	غنیمتیں	94	مَغَانِمَ
سے			برابر نہیں	95	لَا يَسْتَوِي
بجلی	128	الشَّخَّ	أُولِي الضَّرَرِ عذروالے، معذور	95	أُولِي الضَّرَرِ
بہتیرا چاہو	129	حَرَضْتُمْ	کوئی تدبیر	98	حِيلَةً
جیسے لگتی ہو	129	كَالْمُعَلَّقَةِ	بہت وافر جگہ	100	مُرَاعِمًا
دونوں جدا	130	يَتَفَرَّقَا	کثیراً	100	كَثِيرًا
ہو جائیں			تم قصر کرو	101	تَقْصُرُوا
ہم نے تاکید کی	131	وَصَيْنَا	تمہیں ستائیں	101	يَفْنِنُكُمْ
تم زبان دباؤ گے	135	تَلُؤُوا	اور ان کا اسلحہ	102	أَسْلِحَتَهُمْ
وہ مشغول ہوں	140	يُحْضِرُوا	اپنے سامان	102	أَمْتِعَتِكُمْ
ہم غالب آتے	141	نَسْتَحْذِرُ	بارش	102	مَطَرٍ
ہم نے منع کیا	141	نَمْنَعُكُمْ	تم مطمئن ہو جاؤ	103	اِظْمَأْنَنْتُمْ
سستی	142	كُتْسَالِي	مقرر اوقات میں	103	مَوْقُوتًا
ادھر میں لٹکے	143	مُدَبِّدِينَ	تم کو دکھ پہنچتا ہے	104	تَأْلُمُونَ
ہوئے			خیانت کرنیوالے،	105	الْحَايِبِينَ
سب سے نیچے کا	145	الدَّرَكِ	دعا باز	107	خَوَانًا
درجہ		الْأَسْفَلِ	دعا باز	107	خَوَانًا
			وہ چھپتے	108	يَسْتَخْفُونَ
			(شرماتے) ہیں		
			تہمت لگائے اسکی	112	يَزِمُ بِهِ
			بے گناہ	112	بَرِيئًا
			انکے مشورے	118	نَجْوَاهُمْ
			مقررہ	118	مَفْرُوضًا
			اور انہیں ضرور	119	وَلَأَمَيَّتَهُمْ
			بہکاوں گا		
			تو وہ ضرور چیریں	119	فَلْيَبْتِكُنَّ
			گے		



## (((پارہ-7)))

83	تَفِيضٌ	بہر پڑتی ہیں
83	الدَّمْعِ	آنسو
85	فَأَتَانَهُمْ	پس انکو ثواب دیا، بدلہ دیا
89	عَقَدْتُمْ	مضبوط باندھا
89	فَكَفَّرْتُمُوهُ	سواس کا کفارہ
89	أَوْسَطِ	اوسط، بیچ کا
90	رَجَسٌ	نا پاک، گندگی
91	يُوقِعُ	ڈالے وہ
94	الصَّيْدِ	شکار
95	النَّعِيمِ	موشی
95	ذَوَا عَدَلٍ	دو معتبر
95	الْكَعْبَةِ	کعبہ
95	وَبَالَ	سزا
96	لِلسِّيَارَةِ	مسافرن کے لیے
97	الْقَلَابِدِ	پٹے پڑے ہوئے جانور
103	بَحِيرَةٍ	کان پھل کر چھوڑ دیے، جانیوالا جانور
103	سَابِئَةٍ	سانڈ جو غیر اللہ کی نیاز پر چھوڑا جائے
103	وَصِيلَةٍ	ایسی اونٹنی جو ایک مادہ جننے کے بعد دوسری بار بھی مادہ جننے
103	حَامٍ	دس بچے جنادینے والا اونٹ
106	اِثْنَانٍ	دو
106	تَحْسِبُونَهُمَا	تم روک لو ان دونوں کو
106	فَيُقْسِمَانِ	پس دونوں قسم کھائیں
106	إِنْ اِزْتَجَمْتُمْ	اگر تمہیں شک ہو

107	عُثْرٌ	خبر ہو جائے
107	اسْتَحَقَّا	دونوں سزاوار ہوئے
110	كَفَفْتُ	میں نے روکا
111	أَوْحَيْتُ	میں نے دل میں ڈال دیا
112	مَا يَدَّ	خوان
114	عِيداً	عید
119	رَضِي	راضی ہوا
(((6 سُورَةُ الْأَنْعَامِ)))		
1	يَعْدِلُونَ	برابر ٹھہراتے ہیں، برابر کرتے ہیں
2	تَمْتَرُونَ	تم شک کرتے ہو
6	قَرْنٍ	امتیں
6	مَكْتَنَاهُمْ	ہم نے انھیں جمادیا
6	مِدْرَارًا	موسلا دھار
6	أَنْشَأْنَا	ہم نے کھڑا کیا
7	قِرْطَابٍ	کانڈ
7	فَلَمَسُوهُ	پھر وہ چھولیں اسکو
10	فَحَاقَ	تو گھیر لیا
14	فَاطِرٍ	بنانے والا
17	كَاشِفٍ	دور کرنے والا
18	الْقَاهِرُ	غالب
23	فَشَنَّتْهُمْ	شرارت ان کی
25	أَكِيَّةٌ	پردے
25	آذَانِهِمْ	ان کے کان
25	أَسَاطِيرُ	کہانیاں
26	يِنَاؤُنَ	وہ بھاگتے ہیں
30	لِقَاءِ	ملاقات، ملنا
31	السَّاعَةِ	قیامت، وہ گھڑی
31	فَرَطْنَا	کو تا ہی کی ہم نے اپنے بوجھ (وزر):
31	أَوْزَارَهُمْ	(sg)

31	يَزِرُونَ	وہ اٹھائیں گے
32	لَهُؤُ	جی کا بسلاوا
33	يَجْحَدُونَ	وہ انکار کرتے ہیں
35	نَفَقًا	سرنگ
35	سَلْمًا	سیڑھی
38	دَابَّةٍ	چلنے والا
38	طَائِرٍ	پرندہ
38	يَطِيرُ	اڑتا ہے
38	بِجَنَاحِيهِ	اپنے پروں سے
42	يَتَضَرَّعُونَ	وہ گڑگڑائیں
44	مُجْلِسُونَ	مایوس (جمع)
45	دَابِرٌ	جڑ (جمع)
50	خَزَائِنِ اللَّهِ	اللہ کے خزانے
52	لَا تَطْرُدِ	دور نہ کریں (آپ)
53	فَتَنًا	ہم نے آزمایا
55	نُفُصِلُ	ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں
55	لِتَسْتَبِينَ	تاکہ ظاہر ہو جائے
57	الْفَاصِلِينَ	فیصلہ کرنے والے
59	مَفَاتِحَ	کنجیاں
59	مَا تَسْقُطُ	نہیں گرتا
59	لَا رَطْبٍ	نہ کوئی تر
59	وَرَقَةٍ	پتا
59	يَابِسِ	خشک
60	مَا جَزَّ حَتْمٌ	جو تم کما چکے
61	حَفْظَةً	نگہبان
62	أَسْرَعُ	بہت جلد
64	كَزْبٍ	سختی
65	يَلْبَسِكُمْ	یا بھڑا دے تمہیں
65	شَيْعًا	فرقہ فرقہ
65	يُذِيقُ	چکھائے
68	الذِّكْرَى	نصیحت کرنا
70	تُبْسَلُ	پکڑا نہ جائے
70	شَرَابٌ	پینا
70	حَمِيمٌ	گرم
71	اسْتَهْوَتْهُ	بھلا دیا اسکو
71	حَيْرَانَ	حیران
73	الصُّورِ	صور
74	آزَرَ	آزر
74	أَصْنَامًا	بت
75	مَلَكُوتِ	بادشاہی
76	جَحَنَ	اندھیرا کر لیا
76	كُوكَبًا	ستارہ
76	أَفَلْ	غائب ہو گیا
77	الْقَمَرِ	چاند
77	بَارِعًا	چمکتا ہوا
79	وَجْهَتُ	طرف منہ موڑ لیا
85	إِلْيَاسَ	الیاس علیہ السلام
86	الْيَسَعَ	یسع علیہ السلام
86	لُوطًا	لوط علیہ السلام
89	وَكَلْنَا	ہم مقرر کر دیتے ہیں
90	اِقْتَدِهِ	چلو
93	عَمَرَاتِ	موت کی سختیاں
93	الْمُوتِ	موت کی سختیاں
93	الْهُونِ	ذلت
94	فُرَادَى	ایک ایک (آکیلا)
94	خَوْلَانِكُمْ	ہم نے دیا تھا تمہیں
95	فَالِقُ	چیرنے والا
95	التَّوَى	کھٹی
96	الإِصْبَاحِ	صبح
98	مُسْتَوْدَعٌ	امانت کی جگہ
99	خَضْرًا	سبزی
99	مُتْرًا كِبَا	ایک پر ایک چڑھا ہوا
99	طَلَعَهَا	گابھا
99	دَانِيَةً	جھکے ہوئے

زیتون	الزَّيْتُونَ	99
انار	الرُّمَّانَ	99
ملتی جلتے	مُشْتَبِهًا	99
پھل اسکا	تَمْرِهِ	99
پھلتا ہے	أَثْمَرَ	99
پکنا اسکا	يَنْعِهِ	99
تراشتے ہیں	خَرَقُوا	100
بھید جاننے والا	لَطِيفٌ	103
تگہیاں	حَفِيفٌ	104
تم نہ گالی دو	لَا تَسُبُّوا	108
کیا خبر تمہیں	مَا يُشْعِرُكُمْ	109
ہم اُنک دیں گے	نُقَلِّبُ	110
دل انکے	أَفْئِدَتَهُمْ	110
ہم چھوڑ دیں گے	نَذَرَهُمْ	110
انہیں		



78	الرَّجْفَةُ	زلزلہ
78	جَاثِمِينَ	اوندھے
80	مَا سَبَقَكُمْ	جو تم سے پہلے نہیں کی
83	الْغَابِرِينَ	پیچھے رہنے والے
84	أَمْطَرْنَا	ہم نے بارش برسائی
85	مَدِينٍ	ایک مقام کا نام
85	شُعَيْبًا	شعیب علیہ السلام
85	لَا تَبْخَسُوا	نہ گھٹاؤ
86	تُوعِدُونَ	تم ڈراؤ
86	فَكَثَّرَكُم	تو اس نے تمہیں بڑھا دیا





		(((9 سُورَةُ التَّوْبَةِ)))		(((پارہ-10)))				
45	يَتَرَدَّدُونَ	تنگ ہوگی	صَافَتْ	1	بَرَاءَةٌ	41	غَنِمْتُمْ	تم غنیمت لو
46	انْبِعَاطَهُمْ	فراخی کے باوجود	بِمَا رَحِبَتْ	2	فَسِيحُوا	42	بِالْعُدْوَةِ	کنارے پر
46	فَنَبَّطَهُمْ	پیٹھ دینے والے	مُدْبِرِينَ	2	مُعْجِزِي اللَّهِ	42	الْقُصْوَى	پرلا
47	خَبَالًا	تسکین اسکی	سَكِينَتَهُ	2	وَالْ	42	الرَّكْبِ	تافلہ
47	أَوْضَعُوا	پلید	نَجَسٌ	3	أَذَانٌ	42	تَوَاعَدْتُمْ	تم باہم وعدہ کرتے
47	خِلَالِكُمْ	محتاجی	عَيْلَةً	5	احْضُرُوهُمْ	43	مَنَامِكُمْ	خواب تمہارا
55	تَزْهَقِ	نہ قبول کرتے ہیں	لَا يَدِينُونَ	5	مَرَّصِدٍ	43	سَلَّمَ	بچالیا
56	يَفْرُقُونَ	جزیہ	الْحِزْبَةَ	6	فَخَلُّوا	44	يُقَلِّبُكُمْ	تم کو تھوڑے دکھایا
57	مَلَجًا	عزیر علیہ السلام	عَزِيرٌ	6	اسْتَجَارَكَ	47	بَطْرًا	اتراتے
57	مُدْخَلًا	وہ لیں کرتے ہیں	يُضَاهِئُونَ	6	فَأَجْرُهُ	47	رِثَاءَ النَّاسِ	لوگوں کے دکھاوے کو
57	يَجْمَعُونَ	بجھادیں	يُطْفِئُونَ	8	يَظْهَرُوا	47	يَضُدُونَ	روکتے
58	يَلْمِزُكَ	تاکہ غلبہ دے اسے	لِيُظْهِرَهُ	8	مَأْمَنَةً	48	نَكَصَ	الٹا پھر گیا
58	أَعْطُوا	جمع کر کے رکھتے ہیں	يَكْنِزُونَ	13	بَدُّوكُمْ	50	الْحَرِيقِ	بھڑکتا ہوا
60	الْعَامِلِينَ	دہکائیں گے	يُحْمَى	14	يَشْفِ	51	ظَلَامٍ	ظلم کرنے والا
60	الْمُؤَلَّفَةِ	پھر داغا جائے گا	فَتَكْوَى	16	تُتْرَكُوا	60	رِبَاطِ	پلے ہوئے گھوڑے
60	الْعَارِمِينَ	پیشانیوں انکی	جِبَاهُهُمْ	16	وَلِيَجْهَ	60	تُرْهِيُونَ	تم ڈھاک بٹھاؤ
63	يُحَادِدِ	میبے کا ہٹا دینا	النَّسِيءِ	17	يَعْمُرُوا	61	جَنَحُوا	جھکیں
65	نَحْوُصَ	تاکہ وہ پوری کر لیں	لِيُؤَاطُوا	19	سِقَايَةَ	65	حَرِصَ	ترغیب دلا
66	لَا تَعْتَدُوا	تم گرے جاتے ہو	اِنَّا قَلْبُكُمْ	19	الْحَاجَّ	65	عِشْرُونَ	بیس
70	أَصْحَابَ	غار (جمع):	الْعَارِ	19	عِمَارَةَ	66	خَفَّفَ	تخفیف کردی
70	مَدِينَ	غار (جمع):	السُّفْلَى	23	اسْتَحْبُوا	66	صَغَفًا	کمزوری
72	جَنَاتِ عَدْنٍ	بالا	الْعُلْيَا	24	عَشِيرَتِكُمْ	67	أَسْرَى	قیدی
73	اغْلَظْ	ہلکے	خِيفًا	24	كَسَادَهَا	67	يُشْحِنَ	خون ریزی کرے
74	مَا نَقَمُوا	آسان	قَاصِدًا	24	حَوْلِيَا، مَسْكِنِ	71	فَأَمَكَنَّ	توقبضہ میں دے دیا
75	لَنَصَّدَّقَنَّ	دور نظر آیا	بَعُدَتْ	24	أَحَبَّ	72	وَلَا يَتِيهِمْ	رفاقت انکی
75	لَنَصَّدَّقَنَّ	راستہ	الشُّقَّةُ	25	مَوَاطِنَ	72	اسْتَنْصَرُوا	وہ مدد مانگیں تم سے
77	فَأَعَقَبَهُمْ	نہیں مانگتے رخصت	لَا يَسْتَأْذِنُكَ	25	يَوْمَ حُنَيْنٍ		م	
77	نِفَاقًا	شک میں پڑے رہے	أَزْتَابَتْ					

خوشی سے کرنے	79	الْمُطَّوِّعِينَ
والے		
انہوں نے خلاف	77	أَخْلَفُوا
کیا		
محنت اٹکی	79	جُهِدَهُمْ
گرمی	81	حَرًّا
پیچھے رہنے والے	81	الْمُخَلَّفُونَ
اپنے بیٹھے رہنے	81	بِمَقْعَدِهِمْ
سے		
خلاف	81	خِلَافٍ
اور چاہیے کہ	82	وَلْيَبْكُوا
روئیں		
نہ نماز پڑھ	84	لَا تُصَلِّ
اسکی قبر	84	قَبْرِهِ
مقدور والے	86	أُولُوا الطَّلُوفِ
بہانہ بنانے والے	90	الْمُعَذِّبُونَ
دیہاتی لوگ	90	الْأَعْرَابِ
پیچھے رہ جانے والی	93	الْحَوَالِفِ
عورتیں		

		رکتے ہیں		مَوْطِنًا 120		يَعْتَدُونَ 94	
آپکا اس کو	أَذْرَكَهُ 90	تند و تیز	عَاصِفٌ 22	قدم	مَوْطِنًا 120	عذر لائیں گے	يَعْتَدُونَ 94
تیرا بدن	بَدَنِكَ 92	موج	الْمَوْجُ 22	وادی	وَإِدْيَا 121	خبریں تمہاری	أَخْبَارِكُمْ 94
ہم نے ٹھکانہ دیا	بَوَّأْنَا 93	سرکشی کرنے لگے	يَبْعُونَ 23	کہ وہ کوچ کریں	لَيَنْفِرُوا 122	زیادہ لائق	أَجْدَرُ 97
ٹھکانا	مُبَوَّأً 93	تو ملا جلا نکلا	فَاخْتَلَطَ 24	نزدیک تمہارے	يَلُونَكُمْ 123	تاوان	مَعْرَمًا 98
قوم یونس قوم یونس	قَوْمَ يُونُسَ 98	کٹا ہوا ڈھیر	حَصِيدًا 24	سختی	غِلْظَةً 123	گردشیں	الدَّوَابِّ 98
(((11 سورة هود)))		سلامتی کا گھر	دَارِ السَّلَامِ 25	پھیر دیے	صَرَفَ 127	نزدیکیاں	قُرْبَاتٍ 99
مضبوط کی گئیں	أُحْكِمَتْ 1	نہ چڑھے گی	لَا يَزْهُقُ 26	تمہیں تکلیف پہنچے	عَنْتُمْ 128	دعائیں	صَلَوَاتٍ 99
تفصیل کی گئیں	فُصِّلَتْ 1	سیاہی	قَتَرٌ 26	حریص، بہت	حَرِيصٌ 128	سبقت کرنے	السَّابِقُونَ 100
دوہرے کرتے ہیں	يَثْنُونَ 5	بچانے والا	عَاصِمٍ 27	خواہشمند		والے	
اوڑھتے ہیں، لپیٹتے ہیں	يَسْتَعْشُونَ 5	ڈھانک دیے گئے	أُعْشِيَتْ 27	(((10 سورة يونس)))			
اپنے کپڑے	ثِيَابَهُمْ 5	تاریک	مُظْلِمًا 27	تعب	عَجَبًا 2	مدینہ والے	أَهْلِ 101
		پھر ہم جدائی ڈال	فَزَيَّلْنَا 28	پایہ	قَدَمٍ 2	اڑے ہوئے	الْمَدِينَةِ 101
		دیں گے		چھ	سِتَّةَ 3	کچھ اور	مَرْدُوا 101
		بھیجی	أَسْلَفَتْ 30	تدبیر کرتا ہے	يُدَبِّرُ 3	اعتراف کیا انھوں نے	آخِرُونَ 102
		وہ راہ نہیں پاتا	لَا يَهْدِي 35	دوبارہ پیدا کرے گا	يُعِيدُهُ 4	انھوں نے ملایا	اعْتَرَفُوا 102
		وہ پہچانیں گے	يَتَعَارَفُونَ 45	اسکو		سکون	خَلَطُوا 102
		پوچھتے ہیں آپ	يَسْتَسْتَبْشِرُونَ 53	جگمگاتا	ضِيَاءَ 5	وہ جو موقوف رکھے گئے	سَكَنٌ 103
		سے	كَ 53	مقرر کر دیں اسکی	قَدَرَهُ 5		مُرْجُونَ 106
		ہاں	إِي 53	منزلیں	مَنَازِلَ 5	گھات کی جگہ	إِزْصَادًا 107
		پیشیانی	التَّدَامَةَ 54	کھول کر بیان کرتا ہے	يُفْصِلُ 5	بنیاد رکھی گئی	أُمْسِسَ 108
		حال	شَأْنٍ 61	انکی ملاقات کے وقت	تَحِيَّتُهُمْ 10	عمارت اسکی	بُنْيَانَهُ 109
		تم مشغول ہوتے ہو	تُفِيضُونَ 61	کی دعا	يُعْجَلُ 11	کھائی	جُرُفٍ 109
		غائب	يَعْرُبُ 61	جلد بھیج دیتا	يُسْرِعُ 11	گرنے والا	هَارٍ 109
		چھوٹا	أَصْغَرَ 61	جلد چاہنا انکا	اسْتَعْجَلَهُمْ 11	سو گر پڑی	فَأَنْهَارَ 109
		میرا قیام	مَقَامِي 71	ہم دور کر دیں	كَشَفْنَا 12	ہمیشہ رہے گی	لَا يَزَالُ 110
		میرا نصیحت کرنا	تَذَكِيرِي 71	حد سے بڑھنے	لِلْمُسْرِفِينَ 12	بنیاد رکھی	بَنَوُا 110
		شبہ	عُمَّةٌ 71	والوں کیلئے	وَالْوَالِيَّةِ 12	شک	رِيْبَةً 110
		تاکہ پھیر دے	لِتَلْفِتَنَّا 78	امتیوں	الْقُرُونَ 13	نرم دل	أَوَاهُ 114
		ہمیں	بِئْرَانِي 78	اور نہ میں خبر دیتا	وَلَا أَدْرَاكُمْ 16	پیاس	ظَمًا 120
		بڑائی	الْكِبْرِيَاءِ 83	تمہیں	عُمَرًا 16	مشقت	نَصَبٌ 120
		البتہ سرکش	لِعَالٍ 83	ایک عمر		اور نہ وہ قدم	وَلَا يَطْوُونَ 120
		مہر لگا دے	أَشْدَدُ 88				

((( پارہ-12 )))

41	مُرْسَاهَا	اور ٹھیرنا اسکا	80	رُكْنٍ شَدِيدٍ	مضبوط پایہ
42	مَوْجٍ	لہر	81	فَأَسْرٍ	پس نکل
42	فِي مَعْرَلٍ	کنارے میں	81	لَا يَلْتَفِتُ	نہ مڑ کر دیکھے
43	سَاوِي	جلد میں پناہ لیتا	82	أَمْطَرْنَا	ہم نے برسایا
44	ابْلَعِي	ہوں	82	سَجِيلٍ	کنکر، سنگ ریزہ
44	اقْلَعِي	نگل لے	82	مَنْصُودٍ	تہہ بہ تہہ
44	غِيضٍ	تھم جا	90	وَدُودٍ	محبت والا
44	اسْتَوَتْ	ختک کر دیا گیا	91	مَا نَفَقَهُ	نہیں ہم سمجھتے
44	الْجُودِي	جاگی	91	رَهْطَكَ	تیرا کنبہ
44	عَاد	جودی پہاڑ	91	لَرَجْمَتِكَ	ضرور تجھ پر پتھراؤ
50	عَاد	قوم عاد	98	الْوَرْدُ	گھاٹ
54	اغْتَرَاكَ	آسیب پہنچایا تجھے	98	الْمُؤْرُودُ	اترنے کا مقام
56	نَاصِيَتِهَا	چوٹی اسکی	99	الرِّفْدُ	انعام
59	عَيْنِي	ضدی	99	الْمَرْفُودُ	جنہیں انعام دیا گیا
60	بُعْدًا	پھٹکار	101	غَيْرَ تَسْبِيحٍ	سوائے ہلاکت
61	اسْتَعْمَرَكُمْ	بسیا تم کو	105	شَقِيئٍ	بد بخت
61	مُجِيبٌ	قبول کرنے والا	105	سَعِيدٌ	خوش بخت
62	مَرْجُؤًا	مرکز امید	106	زَفِيرٌ	چیننا
67	الصَّيْحَةَ	چنگھار	106	شَهِيْقٌ	دھاڑنا
69	حَنِيدٌ	بھنا ہوا	108	غَيْرَ مَجْدُوذٍ	ختم نہ ہونے والی
71	فَضَحَكَتْ	تو وہ ہنس پڑی	109	غَيْرَ مَنْقُوصٍ	گھٹائے بغیر
72	عَجُوزٌ	بڑھیا	113	لَا تَرْكِنُوا	نہ جھکو
72	شَيْخًا	بوڑھا	114	طَرْفِي	دونوں طرف
74	الرَّوْعُ	خوف	114	زُلْفًا	حصہ
75	مُنِيبٌ	رجوع کرنے والا	116	أُولُوا بَقِيَّةٍ	صاحب خیر
76	غَيْرُ مَرْدُودٍ	نہ ٹلایا جانے والا	116	مَا أَنْرَفُوا	جو انھیں دی گئی
77	سِيءٌ	غمگین ہوا	(((12 سُوْرَةُ يُوسُفَ)))		
77	ذَرَعًا	دل میں	4	يُوسُفَ	یوسف علیہ السلام
77	يَوْمَ عَصِيْبٍ	بڑا سختی کا دن	4	أَحَدَ عَشَرَ	گیارہ
78	يُهْرَعُونَ	دوڑتے ہوئے	5	رُؤْيَاكَ	خواب تیرا
78	فِي ضَيْفِي	میرے مہمانوں میں	8	عُضْبَةً	جماعت
78	رَشِيْدٌ	نیک چلن	9	اَظْرَحُوهُ	ڈال دو اسکو
6	مُسْتَوْدِعَهَا	سوئے جانے کی جگہ اسکی	8	أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ	مدت گئی ہوئی
8	مَصْرُوفًا	ٹالا جانے والا	8	لَبِئْسَ	البتہ مایوس
9	نِعْمَاءٌ	نعمت، آرام	10	فَرِحٌ	اترنے والا
10	كَنْزٌ	خزانہ	12	لَا يُحْسِنُونَ	نہ کمی کیے جائیں گے
15	الْأَحْزَابِ	گروہ	17	مَوْعِدُهُ	ٹھکانا اسکا
17	فِي مَرْيَةِ	شک میں	17	لَا جَزْمَ	نہیں شک
22	أَحْبَبُوا	عاجزی کی	23	يَسْتَوِيَانِ	برابر ہے دونوں
23	أَرَادِنَا	پہنچ لوگ ہم میں	27	بَادِي الرَّأْيِ	سرسری نظر سے
27	فَعَمِيَتْ	وہ دکھائی نہیں دیتی	28	أَنْزَلْنَاكُمْ	منا میں اسکو
28	طَارِدٍ	ہانکنے والا	29	تَزْدَرِي	حقیر سمجھتی ہیں
31	إِجْرَامِي	میرا گناہ	35	فَلَا تَجْتَبِسْ	پس تو غمگین نہ ہو
36	لَا تُخَاطِبْنِي	اور نہ بات کر مجھ سے	37	اصْنَعِ	بنا
37	فَارَ	جوش مارا	40	التَّشْوُرُ	تنور
40	ارْكَبُوا	سوار ہو جاؤ	41	مَجْرَاهَا	چلنا اسکا
41	مَجْرَاهَا	چلنا اسکا			

47	تَزْرَعُونَ	کھیتی باڑی کرو گے	25	اسْتَبَقَا	دونوں دوڑے
47	دَابَّأ	لگا تار	25	قَدَّتْ	پھاڑ دی
48	تُحْصِنُونَ	تم بچاؤ گے	25	دُبِيرٌ	پیچھے
49	يُغَاثُ	بارش برسائی جائے گی	25	الْفَيَا	دونوں کو ملا
49	يَعْصِرُونَ	وہ نچوڑیں گے	25	يُسْحَنَ	قید کیا جائے
51	حَصْحَصَ	ظاہر ہو گیا	26	مِن قَبْلِ	آگے سے
52	لَمْ أَخْنُهَا	نہیں خیانت کی اسکی	30	فَتَاهَا	غلام اسکا
			31	مُتَّكِّئًا	محفل
			31	سِكِّينًا	چھری
			31	أَكْبَرَنَّهُ	ان پر رعب چھا گیا اسکا
			31	حَاشَ	پناہ
			31	حَاشَ لِلَّهِ	پناہ اللہ کی !
			32	لُمْتُنِّي	تم نے ملامت کی مجھے
			33	إِلَّا تَصْرِفَ	اگر نہ پھیرا
			33	أَصْبَ	میں مائل ہو جاؤں گا
			35	بَدَا لَهُمْ	انہیں سو جھا
			36	فَتَيَانَ	دو جوان
			36	أَعْصِرَ	میں نچوڑ رہا ہوں
			36	حُبْرًا	روٹی
			39	الْقَهَّارُ	زبردست، غالب
			42	بِضْعِ سِنِينَ	چند برس
			42	نَاجٍ	بچنے والا
			43	سِمَانٍ	موٹی تازی
			43	عِجَافٌ	دہلی پتلی
			43	يَابِسَاتٍ	خشک (جمع)
			43	أَفْشُونِي	بتلاؤ مجھے تعبیر
			43	تَعْبِيرُونَ	تم تعبیر دیتے
			44	أَصْعَاتٌ	پریشان
			44	أَحْلَامٍ	خواب
			45	وَأَذْكَرَ	اور اسے یاد آیا





		((( پارہ-14 )))		(((15 سُورَةُ الْحَجْرِ)))	
80	تَسْتَحْفُوْنَهَا تم ہکا پاتے ہو انھیں	8	الْبِعَالِ خپر	53	لَا تَوَجَّلْ نہ ڈر
80	يَوْمَ ظَغْنِكُمْ تمہارے کوچ کے دن	8	الْحَمِيرِ گدھے	57	فَمَا پس کیا ہے تمہارا
80	أَصَوَّافِهَا اون ان کی	9	جَابِرِ ٹیڑھی	65	خَطْبِكُمْ کام (مہم)
80	أَوْبَارِهَا ریشم ان کی	10	تُسِيمُونَ تم چراتے ہو	68	امضوا چلے جاؤ
80	أَشْعَارِهَا بال ان کے	14	طَرِيًّا تازہ	72	فَلَا پس رسوانہ کرو
80	أَثَا سامان	14	مَوَاحِرِ پانی چیرنے والی	73	تَفْضَحُونَ مجھے
81	أَكْنَانًا پناہ گاہ ہیں	23	لَا جَرَمَ (نہیں شک)، یقینی	74	سَكْرَتِهِمْ نشہ انکا
84	يُسْتَعْتَبُونَ عذر قبول کیے جائیں گے	26	السَّقْفِ چھت	74	مُشْرِقِينَ سورج نکلنے وقت
89	تَبْيَانًا منفصل (بیان)	27	تَشَاقُقُونَ تم جھگڑتے ہو	74	عَالِيهَا اوپر کا حصہ اسکا
91	تَوَكِيدَهَا پختہ کرنا انکو	32	طَيِّبِينَ پاک (جمع)	75	سَافِلَهَا نیچے کا حصہ اسکا
91	كَفِيْلًا ضامن	45	يَخْسِفَ دھنسا دے	75	لِلْمُتَوَسِّمِينَ غور و فکر کرنے والوں کے لیے
92	عَزْلَهَا سوت اسکا	47	تَخَوْفِ ڈرانا	78	أَصْحَابِ ایک (بن والے،
92	أَنْكَاثًا نکلنے نکلنے	48	يَتَفَيَّأُ ڈھلتے ہیں	80	الْأَيْكَةِ قوم شعیب
92	أَرْبَى بڑھا ہوا	52	وَاصِبًا لازم	80	أَصْحَابِ حجر والے
94	دَخَلًا دخول کا بہانہ	53	تَجَاوَزُونَ تم روتے (چلا تے)	87	الْمَثَانِي بار بار دہرائی جانے والی
94	ثُبُوتَهَا جم جانا اسکا	58	كَظِيمٍ غصہ سے بھرا ہوا	88	أَخْفِضْ جھکا دے
96	يَنْفَدُ ختم ہو جاتا	59	يُدْسُهُ دبا دے (دفن کردے)	88	جَنَاحَكَ بازو تیرے
103	أَعْجَمِيَّ عجمی	60	أَعْلَى سب سے بلند	91	عِضِينَ نکلنے نکلنے
103	عَرَبِيَّ عربی	66	فَرِثٍ گوہر	94	فَاصِدَعٍ پس صاف صاف کدیں آپ
128	مُحْسِنُونَ نیکو کار لوگ	66	لَبَنًا دودھ	(((16 سُورَةُ النَّجْلِ)))	
		66	سَابِغًا خوش گوار	1	فَلَا سونہ جلدی کرو
		68	النَّحْلِ شہد کی مکھی	4	تَسْتَعْجِلُوهُ اسکی
		68	يَعْرِشُونَ چھتیاں بناتے ہو	5	نُطْفَةٍ نطفہ
		69	ذُلًّا نرم و ہموار	5	دِفْءٍ گرم سامان
		72	حَفْدَةً پوتے	6	جَمَالٍ خوبصورتی، شان
		76	أَبْكُمْ گوٹکا	6	تُرِيحُونَ شام کو چرا کر لاتے ہو
		77	كَلْمَحٍ جیسے جھپکنا آنکھ کا	6	تَسْمُرُونَ صبح کو چرانے لے جاتے ہو
		79	جَوِّ السَّمَاءِ فضا آسمان کی		
				2	رُبَمَا بسا اوقات
				3	يُلْهِهِمْ غفلت میں رکھے انکو
				3	الْأَمَلِ امید
				5	مَا تَسْبِقُ نہیں سبقت کرتی
				6	مَجْنُونٍ دیوانہ
				12	نَسَلُكُهُ ہم ڈال دیتے ہیں اسکو
				14	فَظَلُّوا پس وہ ہیں
				14	يَعْرِجُونَ چڑھتے
				15	سُكْرَتٍ باندھ دی گئی
				18	شِهَابٍ شعلہ
				21	مَعْلُومٍ معلوم، مناسب
				24	الْمُسْتَقْدِمِ آگے گزرنے والے
				24	الْمُسْتَأَخِرِ پیچھے رہ جانے والے
				26	صَلْصَالٍ کھنکھاتا ہوا
				26	حَمًا سیاہ گارا
				26	مَسْنُونٍ سڑا ہوا
				27	الْحِجَانِ جن
				27	نَارِ السَّمُومِ بغیر دھوئیں کی آگ
				29	نَفْحَتْ میں پھوں کوں
				29	فَقَعُوا تو گر پڑو تم
				30	أَجْمَعُونَ سب کے سب
				39	أَعْوَيْتَنِي تو نے گمراہ کیا مجھے
				42	سُلْطَانٌ زور
				47	سُرُرٍ تخت
				47	مُتَقَابِلِينَ آمنے سامنے
				48	نَصَبٍ تکلیف
				52	وَجَلُونَ ڈرنے والے



20	بَغِيًّا	20	بَغِيًّا	بدکار
21	مَقْضِيًّا	21	مَقْضِيًّا	طے شدہ
22	قَصِيًّا	22	قَصِيًّا	دور
23	الْمَخَاضِ	23	الْمَخَاضِ	دروزہ
23	جِدْعٍ	23	جِدْعٍ	جڑ
23	نَسِيًّا	23	نَسِيًّا	بھولی بری
23	مَنْسِيًّا	23	مَنْسِيًّا	بھولی بری
24	سَرِيًّا	24	سَرِيًّا	چشمہ
25	هُزِيٍّ	25	هُزِيٍّ	ہلا
25	تُسَاقِطٍ	25	تُسَاقِطٍ	جھڑ پڑیں گی
25	جَبِيًّا	25	جَبِيًّا	کھجوریں
26	قَرِيٍّ	26	قَرِيٍّ	ٹھنڈی کر
26	إِنْسِيًّا	26	إِنْسِيًّا	کوئی آدمی
27	فَرِيًّا	27	فَرِيًّا	بری (غضب کی)
31	أَوْصَانِي	31	أَوْصَانِي	حکم دیا ہے مجھے
39	يَوْمَ	39	يَوْمَ	حسرت کا دن
39	الْحَسْرَةِ	39	الْحَسْرَةِ	حسرت کا دن
46	مَلِيًّا	46	مَلِيًّا	ایک مدت کے لیے
47	خَفِيًّا	47	خَفِيًّا	مہربان
58	خَوْثًا	58	خَوْثًا	گر پڑے
58	بُكِيًّا	58	بُكِيًّا	روتے ہوئے
59	أَضَاعُوا	59	أَضَاعُوا	انہوں نے گنوا یا
61	مَاتِيًّا	61	مَاتِيًّا	آنے والا
65	اضْطَبِرَ	65	اضْطَبِرَ	ثابت قدم رہ
68	جَثِيًّا	68	جَثِيًّا	کھنٹوں کے بل
70	صَلِيًّا	70	صَلِيًّا	داخل ہونا
71	حَثْمًا	71	حَثْمًا	لازم
73	نَدِيًّا	73	نَدِيًّا	مجلس
74	رَبِيًّا	74	رَبِيًّا	نمود، دکھاوا
75	فَلْيَمْدُدْ	75	فَلْيَمْدُدْ	توڑھیل دے رہا ہے
76	مَرَدًّا	76	مَرَدًّا	با اعتبار انجام
96	زُبْرًا	96	زُبْرًا	کٹڑے
96	سَاوِي	96	سَاوِي	برابر کر دیا
96	الصَّادِقِينَ	96	الصَّادِقِينَ	دونوں پہاڑ
96	قِطْرًا	96	قِطْرًا	بگھلا ہوا تانبہ
97	نَقْبًا	97	نَقْبًا	نقب
99	نُفِخَ فِي	99	نُفِخَ فِي	پھونکا جائے گا صور
99	الصُّورِ	99	الصُّورِ	میں
99	يُمُوجُ	99	يُمُوجُ	ریلا مارتے
101	غِطَاءٍ	101	غِطَاءٍ	پردہ
104	صُنْعًا	104	صُنْعًا	کام
107	جَنَاتٍ	107	جَنَاتٍ	فردوس کے
107	الْفِرْدَوْسِ	107	الْفِرْدَوْسِ	باغات
108	جَوْلًا	108	جَوْلًا	جگہ بدلنا
109	لَنْفِدَ	109	لَنْفِدَ	البتہ ختم ہو جائے
109	مَدَادًا	109	مَدَادًا	سمندر
109	مَدَادًا	109	مَدَادًا	روشنائی
<b>(((19 سُورَةُ مَرْيَمَ)))</b>				
3	خَفِيًّا	3	خَفِيًّا	آہستہ سے
4	وَهَنَ	4	وَهَنَ	کمزور ہو گئی
4	اشْتَعَلَ	4	اشْتَعَلَ	شعلہ مارنے لگا
4	شَيْبًا	4	شَيْبًا	سفید بال
5	الْمَوَالِي	5	الْمَوَالِي	رشتہ دار میرے
6	رَضِيًّا	6	رَضِيًّا	پسندیدہ
7	سَمِيًّا	7	سَمِيًّا	ہم نام
8	عَتِيًّا	8	عَتِيًّا	انتہائی حد
9	هَيِّنٌ	9	هَيِّنٌ	آسان
10	سَوِيًّا	10	سَوِيًّا	ٹھیک
12	صَبِيًّا	12	صَبِيًّا	بچپن سے
13	حَنَانًا	13	حَنَانًا	شفقت
14	بَرًّا	14	بَرًّا	اچھا سلوک کرنے والا
16	انْتَبَذَتْ	16	انْتَبَذَتْ	یکسو ہو گئی
17	تَمَثَّلَ	17	تَمَثَّلَ	شکل بن گیا
60	لَا أَبْرَحُ	60	لَا أَبْرَحُ	نہ ہٹوں گا
60	مَجْمَعٍ	60	مَجْمَعٍ	دو دروازوں کے ملنے
60	أَمْضِي	60	أَمْضِي	میں جیتا رہوں گا
60	حُقْبًا	60	حُقْبًا	مدت دراز
61	سَرَبًا	61	سَرَبًا	سرنگ
63	أَوْيِنَا	63	أَوْيِنَا	ہم ٹھیرے
63	الصَّخْرَةَ	63	الصَّخْرَةَ	پتھر
71	فَانْطَلَقَا	71	فَانْطَلَقَا	پھر وہ دونوں چلے
71	السَّفِينَةَ	71	السَّفِينَةَ	کشتی
71	خَوَّفَهَا	71	خَوَّفَهَا	سورخ کر دیا اس
71	إِمْرًا	71	إِمْرًا	بھاری
<b>(((پارہ - 16)))</b>				
74	نُكْرًا	74	نُكْرًا	بڑا، سخت
77	اسْتَطْعَمَا	77	اسْتَطْعَمَا	دونوں نے کھانا
77	يُضَيِّفُهُمَا	77	يُضَيِّفُهُمَا	مانگا
77	جِدَارًا	77	جِدَارًا	ضیافت کریں ان
77	أَنْ يَنْقُصَ	77	أَنْ يَنْقُصَ	دونوں کی
77	عَضْبًا	77	عَضْبًا	دیوار
77	يُرْهَقُهُمَا	77	يُرْهَقُهُمَا	کہ وہ گر پڑے
79	ذِي	79	ذِي	زبردستی
80	الْفَرَنْجِينَ	80	الْفَرَنْجِينَ	پھنسا دے ان
83	حَمِيَّةٍ	83	حَمِيَّةٍ	دونوں کو
86	مَطْلَعٍ	86	مَطْلَعٍ	ذوالقرنین
90	سِتْرًا	90	سِتْرًا	دلدار
90	السَّدَّيْنِ	90	السَّدَّيْنِ	طلوع ہونے کا مقام
93	يَأْجُوجَ	93	يَأْجُوجَ	پردہ
94	وَمَأْجُوجَ	94	وَمَأْجُوجَ	دو دیواریں (سد):
94	خَوْجًا	94	خَوْجًا	دیوار
95	فَأَعْيُنُونِي	95	فَأَعْيُنُونِي	وحشی غارت گر
95	رَدْمًا	95	رَدْمًا	قوم کے نام
95	رَدْمًا	95	رَدْمًا	مال
95	رَدْمًا	95	رَدْمًا	پس تم مدد کرو
95	رَدْمًا	95	رَدْمًا	میری
95	رَدْمًا	95	رَدْمًا	مضبوط آڑ
20	يُعِيدُوكُمْ	20	يُعِيدُوكُمْ	لوٹائیں گے تم کو
21	أَعَزَّنَا	21	أَعَزَّنَا	ہم نے خبردار
21	ابْنُوا	21	ابْنُوا	کر دیا
22	رَجْمًا	22	رَجْمًا	بناؤ
22	فَلَا تُمَارِ	22	فَلَا تُمَارِ	بات پھینکنا
22	مِرَاءٍ	22	مِرَاءٍ	پس نہ جھگڑو
27	مُلْتَحِدًا	27	مُلْتَحِدًا	بحث
27	فُوْطًا	27	فُوْطًا	پناہ گاہ
28	سُوَادِقُهَا	28	سُوَادِقُهَا	حد سے بڑھا ہوا
29	يُعَاثُوا	29	يُعَاثُوا	قتالیں اسکی
29	كَالْمُهَلِّ	29	كَالْمُهَلِّ	وہ داورسی کے
29	يَسُوِي	29	يَسُوِي	جسے بگھلا ہوا تانبہ
29	مُرْتَفَعًا	29	مُرْتَفَعًا	بھون ڈالے
31	يُحَلِّوْنَ	31	يُحَلِّوْنَ	آرام گاہ
31	أَسَاوِرَ	31	أَسَاوِرَ	پہنائے حائس گے
31	سُنْدُسٍ	31	سُنْدُسٍ	لنگن
31	إِسْتَبْرَقٍ	31	إِسْتَبْرَقٍ	مارکت ریشم
31	مُتَكِبِينَ	31	مُتَكِبِينَ	دبیز ریشم
31	الْأَزَالِكِ	31	الْأَزَالِكِ	تکے لگائے ہوئے
32	حَقْفَتَاهُ	32	حَقْفَتَاهُ	تخت (جمع)
32	كَلْنَا	32	كَلْنَا	ہم نے کھ لیا ان
34	يُحَاوِرُهُ	34	يُحَاوِرُهُ	دونوں مانع
34	نَفْرًا	34	نَفْرًا	ماتیں کرتا ہوا اس
35	تَبِيدَ	35	تَبِيدَ	آدمیوں کے لحاظ
39	أَقْلًا	39	أَقْلًا	تو بر باد ہوگا
40	حُسْبَانًا	40	حُسْبَانًا	کم تر
40	رَلَقًا	40	رَلَقًا	آفت
41	غَوْرًا	41	غَوْرًا	چٹیل
41	طَلَبًا	41	طَلَبًا	خٹک
44	الْوَلَايَةَ	44	الْوَلَايَةَ	طلب (تلاش)
45	هَشِيمًا	45	هَشِيمًا	اختیار
47	بَارِزَةً	47	بَارِزَةً	جورا جورا
47	فَلَمْ نَعَادِرْ	47	فَلَمْ نَعَادِرْ	کھلی ہوئی (صاف)
51	عَضْدًا	51	عَضْدًا	پھر ہم نہ چھوڑیں
52	مَوْبِقًا	52	مَوْبِقًا	مازو
53	مُؤَاقِعُهَا	53	مُؤَاقِعُهَا	بلاکت کی جگہ
53	مَضْرَفًا	53	مَضْرَفًا	گرنے والے اس
56	لِيُدْحِضُوا	56	لِيُدْحِضُوا	راہ
58	مَوْبِلًا	58	مَوْبِلًا	تاکہ وہ پھسلادیں
58	مَوْبِلًا	58	مَوْبِلًا	یناہ کی جگہ

عِزًّا 81	موجب عزت	25	اَشْرَحُ 25	کشادہ کردے	86	أَفْطَالٌ 86	کیا طویل ہوگی؟
صِدًّا 82	مخالف	27	اِحْلُلُ 27	کھول دے	94	يَا اِبْنَ اُمِّ 94	اے میری ماں کے بیٹے
اَزًّا 83	اکسانا، بدکانا	27	عُقْدَةً 27	گرہ	94	لِحَيَّتِي 94	ڈاڑھی میری
وَفْدًا 85	مہمان بنا کر	31	اَزْرِي 31	قوت میری	94	لَمْ تَرْقُبْ 94	نہ خیال رکھا
وَرْدًا 86	پیاسے	33	كَيْ 33	تاکہ	96	فَقَبِضْتُ 96	پس میں نے مٹھی بھر لی
اِذَا 89	بری	39	اَقْدِفِيهِ 39	ڈال اسے	97	لَا مِسَاسَ 97	نہ چھونا (ہاتھ نہ لگانا)
هَدًّا 90	پارہ پارہ	39	لِثْنَعٍ 39	تاکہ تو پرورش پائے	97	ظَلَّتْ 97	رہا تو
يَنْبَغِي 92	شایان	40	هَلْ اَدُلُّكُمْ 40	کیا میں بتاؤں تمہیں	97	عَاكِفًا 97	جمہا ہوا، بیٹھا ہوا
وُدًّا 96	محبت	40	كَيْ تَفَرَّ 40	تاکہ ٹھڈی ہوں	97	لِنُحْرِقْتَهُ 97	البتہ ہم جلا دیں گے
قَوْمًا لُدًّا 97	جھگڑالو لوگ	41	اصْطَنَعْتُكَ 41	میں نے بنایا تجھے	97	لَا تَنِيَا 42	نہ سستی کرنا
رِكْرًا 98	آہٹ	42	لَا تَنِيَا 42	نہ سستی کرنا	97	يَفْرُطُ 45	وہ زیادتی کرے
(((20 سُورَةُ طه طه)))		45	بَالُ 51	حال	97	لَنْسِفْنَهُ 97	البتہ ہم اڑادیں گے
لِتَشْفَى 2	تاکہ تم مشقت میں	51	شَتَّى 53	مختلف	97	نَسْفًا 97	اڑا کر
الشَّرى 6	پڑو	53	ازْعُوا 54	چراؤ	102	زُرْقًا 102	نیلی آنکھیں
امْكُشُوا 10	ٹھرو	54	أُولِي النُّهْيِ 54	عقل والے	103	يَتَخَفَتُونَ 103	آہستہ آہستہ کہیں گے
آنَسْتُ 10	دیکھی ہے	58	مَكَانًا سُوَى 58	ہموار میدان	104	أَمْثَلُهُمْ 104	سب سے اچھا ان میں سے
قَبَسٍ 10	چنگاری	59	يَوْمَ الزَّيْنَةِ 59	زینت (میلے) کا دن	106	قَاعًا 106	میدان
اِخْلَعُ 12	اتار لو	61	يُسْحِكُكُمْ 61	وہ ہلاک کر دے تمہیں	106	صَفْصَفًا 106	ہموار
نَعْلَيْكَ 12	جو تیاں تیری	63	الْمُثَلَّى 63	اچھا	107	أُمَّتًا 107	بلندی
طَوَى 12	ایک مقدس میدان کا نام	64	اسْتَعْلَى 64	غالب رہا	108	هَمْسًا 108	آہستہ آواز
اِخْتَرْتِكَ 13	میں نے پسند کیا تمہیں	66	عَصِيَّتُهُمْ 66	لاٹھیاں انکی	111	عَنْتِ 111	جھک جائیں
تَرَدَى 16	تو ہلاک ہو جائے	66	يُخَيِّلُ 66	خیال میں آئیں	112	وَلَا هَضْمًا 112	اور نہ کسی کا نقصان
أَنوَكًا 18	میں ٹیک لگاتا ہوں	67	أَوْحَسَ 67	پایا (محسوس کیا)	113	يُحْدِثُ 113	وہ پیدا کر دے
أَهْشُ 18	میں پتے جھاڑتا ہوں	77	يَبْسًا 77	خشک	118	وَلَا تَعْرَى 118	اور نہ تم ننگے رہو گے
عَنَمِي 18	بکریاں میری	77	دَرَكًا 77	پکڑنا	119	وَلَا تَضْحَى 119	اور نہ دھوپ میں رہو گے
مَارِبٌ 18	ضرورتیں	81	هَوَى 81	گرا (نیست و نابود ہوا)			
حَيَّةٌ 20	سانپ	85	السَّامِرِيُّ 85	ایک شیعہ باز آدمی کا نام			
سَبَّرَتْهَا 21	حالت اسکی						
اصْمَمُ 22	ملا۔ (لگا)						
لَا يَبْلَى 120	نہ پرانی (زوال پذیر) ہو	124	صَنَكًا 124	تنگ	129	لِزَامًا 129	عذاب
صَنَكًا 124	تنگ	131	زَهْرَةً 131	آرائش	133	الصُّحُفِ 133	صحیفے
(((پارہ-17)))							
(((21 سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ)))							
مُحَدَّثٌ نِي 2	محدث	3	لَا هَيْبَةً 3	غفلت میں	5	شَاعِرٌ 5	شاعر
لَا هَيْبَةً 3	غفلت میں	7	أَهْلَ الدِّكْرِ 7	یاد رکھنے والے	11	كَمْ قَصَمْنَا 11	کتنی ہلاک کر دیں
شَاعِرٌ 5	شاعر	12	يَزْكُضُونَ 12	بھاگنے لگے	15	فَمَا زَالَتْ 15	پس رہی، نہ ٹلی
أَهْلَ الدِّكْرِ 7	یاد رکھنے والے	15	خَامِدِينَ 15	بجھے ہوئے	18	فَيَدْمَعُهُ 18	پس وہ اسکا بھیجا نکال دیتا ہے
كَمْ قَصَمْنَا 11	کتنی ہلاک کر دیں	18	فَيَدْمَعُهُ 18	پس وہ اسکا بھیجا نکال دیتا ہے	19	يَسْتَحْسِرُونَ 19	نہ وہ نتھتے ہیں
يَزْكُضُونَ 12	بھاگنے لگے	20	لَا يَفْتُرُونَ 20	نہیں سستی کرتے	22	لَفَسَدَتَا 22	البتہ دونوں درہم برہم ہو جاتے
فَمَا زَالَتْ 15	پس رہی، نہ ٹلی	26	مُكْرَمُونَ 26	معزز	30	رَتَقًا 30	بند، ملے ہوئے
خَامِدِينَ 15	بجھے ہوئے	30	رَتَقًا 30	بند، ملے ہوئے	30	فَفَتَقْنَا 30	پس ہم نے کھول دیا ان
فَيَدْمَعُهُ 18	پس وہ اسکا بھیجا نکال دیتا ہے	31	فِي جَا 31	کشادہ	31	تَمِيدًا 31	کہ جھک نہ پڑے انکے
يَسْتَحْسِرُونَ 19	نہ وہ نتھتے ہیں	31	تَمِيدًا 31	کہ جھک نہ پڑے انکے	31	بِهِمْ 31	ساتھ
لَا يَفْتُرُونَ 20	نہیں سستی کرتے	33	يَسْبَحُونَ 33	تیر رہے ہیں	37	عَجَلٍ 37	جلدی

سوال کرنے والے	36	الْمُعْتَرِّ	موڑنے والا اپنی	9	ثَانِي عِظْفِهِ	ثانی عطفہ	9	کی	91	فَرَجَهَا	شرمگاہ اسکی	تو حیران کر دے	40	فَتَجَهَّتْهُمْ
تو ڈھادیے سجاتے	40	لَهْدَمَتْ	گردن	11	حَرْفٍ	کنارے	11	شرمگاہ اسکی	96	حَدَبٍ	بلندی (ٹیلہ)	گی انہیں	42	يَكْلُوْكُمْ
صومعے (خلوت خانے)	40	صَوَامِعُ	رسی	15	سَبَبٍ	سبب	15	بلندی (ٹیلہ)	96	يَنْسِلُونَ	پھسلنے (دوڑتے)	نگرانی کرتا ہے	43	تَمَنُّهُمْ
گرجے	40	بَيْعُ	آتش پرست	17	الْمَجُوسِ	مَجُوسِ	17	پھسلنے (دوڑتے)	97	شَاخِصَةً	اوپر لگی (بچھی) رہ	بچاتے ہیں انکو	43	يُصْحَبُونَ
عبادت خانے	40	صَلَوَاتُ	ذلیل کرے اللہ	18	يُهِنُ اللَّهُ	یُهِنُ اللَّهُ	18	ہوئے آئیں گے	97	شَاخِصَةً	جانے والی	وہ ساتھی پائیں گے	44	نَنْفُسَهَا
کتوان	45	بِئْرٍ	دو فریق	19	خَصْمَانِ	خَصْمَانِ	19	اوپر لگی (بچھی) رہ	98	حَصَبٍ	ایندھن	ہم گھٹاتے ہیں	46	نَفْحَةً
بے کار	45	مُعْطَلَةً	جھگڑا کیا	19	اِحْتَصَمُوا	اِحْتَصَمُوا	19	جانے والی	98	وَارِدُونَ	داخل ہونے والے	اسکو	47	نَضْعُ
محل	45	قَصْرِ	ڈالا جائے گا	19	يُصَبُّ	يُصَبُّ	19	ایندھن	101	سَبَقَتْ	پہلے ٹھہر چکی	لپٹ	47	حَزْدٍ
مضبوط	45	مَشِيدٍ	لگھل جائے گا	20	يُصْهِرُ	يُصْهِرُ	20	داخل ہونے والے	101	مُتَعَدُونَ	دور رکھے ہوئے	ہم رکھیں گے	47	الْتَّمَائِيلِ
منحوس دن	55	يَوْمٍ عَقِيمٍ	گزر	21	مَقَامِعُ	مَقَامِعُ	21	پہلے ٹھہر چکی	101	مُتَعَدُونَ	(ہوں گے)	رائی	52	جُدَادًا
سر سبز	63	مُخْضِرَةً	موتی	23	لَوْلُؤًا	لَوْلُؤًا	23	دور رکھے ہوئے	102	حَسِيْسَهَا	آہٹ اسکی	مور تیں	58	يَنْطَفُونَ
کہ گر پڑے	65	أَنْ تَقَعَ	ریشم	23	حَرِيْرٌ	حَرِيْرٌ	23	(ہوں گے)	103	الْفَرْغُ	گھبراہٹ	ریزہ ریزہ	63	نُكْسُوا
حملہ کر دیں	72	يَسْطُونَ	پردیسی	25	الْبَادِ	الْبَادِ	25	آہٹ اسکی	103	تَتَلَقَّاهُمْ	لینے آئیں گے انکو	وہ بولتے ہیں	65	حَزَقُوهُ
مکھی	73	ذُبَابًا	دہلی اوٹنی	27	صَامِرٍ	صَامِرٍ	27	گھبراہٹ	103	تَتَلَقَّاهُمْ	لینے آئیں گے انکو	وہ اوندھے کیے گئے	68	بَرْدًا
چھین لے ان سے	73	يَسْلُبُهُمْ	راستہ	27	فَجٍّ	فَجٍّ	27	لینے آئیں گے انکو	104	نَطْوِي	ہم لپیٹ لیں گے	جلا ڈالو اسکو	69	الْكُزْبِ
نہ چھڑا سکیں گے	73	لَا	دور دراز	27	عَمِيْقٍ	عَمِيْقٍ	27	ہم لپیٹ لیں گے	104	كَطِي	جیسے لپیٹنا	ٹھنڈی	76	نَفْسَتْ
اسے	73	يَسْتَنْقِذُوهُ	بد حال	27	الْبَاسِ	الْبَاسِ	27	جیسے لپیٹنا	104	السَّجَلِ	طومار	بے چینی	78	فَفَهَّمْنَاهَا
چاہنے والا	73	الطَّالِبِ	پھر چاہیے کہ وہ	29	ثُمَّ الْبِقِصُوا	ثُمَّ الْبِقِصُوا	29	طومار	109	أَدْرِي	میں جانتا	رات میں چر گئیں	79	صَنْعَةً
جس کو چاہا گیا	73	الْمَطْلُوبِ	دور کریں	29	تَفَنَّهُمْ	تَفَنَّهُمْ	29	میں جانتا	2	تَذَهَلُ	بھول جائے گی	پس ہم نے فہم دیا	80	لِشَحْنِكُمْ
			میل کچیل انکا	29	الْبَيْتِ	الْبَيْتِ	29	بھول جائے گی	2	مُرْضِعَةٍ	دودھ پلانے والی	اس (صحیح فیصلہ) کا	80	يَعُوْصُونَ
			قدیم گھر	29	الْعَتِيْقِ	الْعَتِيْقِ	29	دودھ پلانے والی	2	ذَاتِ حَمَلٍ	حمل والی (حاملہ)	صنعت، کاریگری	80	ذَا الْكِفْلِ
			بت (جمع)	30	الْأَوْثَانِ	الْأَوْثَانِ	30	حمل والی (حاملہ)	5	عَلَقَةٍ	جما ہوا خون	تاکہ وہ بچائے تم کو	82	ذَا التُّونِ
			جھوٹا	30	الرُّوْرِ	الرُّوْرِ	30	جما ہوا خون	5	مُضْغَةٍ	گوشت کی بوٹی	غوطہ لگاتے تھے	85	مُعَاْصِبًا
			دور دراز	31	سَحِيْقٍ	سَحِيْقٍ	31	گوشت کی بوٹی	5	مُحَلَّقَةٍ	صورت بنی ہوئی	زوا کلفل علیہ	87	رَعْبًا
			قربانی	34	مَنْسَكًا	مَنْسَكًا	34	صورت بنی ہوئی	5	نُقْرٌ	ہم ٹھیراتے ہیں	السلام	90	رَهْبًا
			عاجزی سے گردن	34	الْمُخْتَبِتِينَ	الْمُخْتَبِتِينَ	34	ہم ٹھیراتے ہیں	5	طِفْلًا	بچہ	مچھلی والا (حضرت یونس علیہ السلام)	90	أَحْصَنَتْ
			جھکانے والے	36	الْبُدْنَ	الْبُدْنَ	36	بچہ	5	أَرْدَلِ الْعُمْرِ	آرڈل عمر	غصہ میں بھر کر	91	
			قربانی کے اونٹ	36	وَجَبَتْ	وَجَبَتْ	36	بچہ	5	هَامِدَةٌ	خٹک پڑی ہوئی	امید		
			گر جائیں	36	الْقَانِعِ	الْقَانِعِ	36	خٹک پڑی ہوئی	5	اهْتَزَتْ	تروتازہ ہوگی	خوف		
			سوال نہ کرنے والے	36			36	تروتازہ ہوگی	5	رَبَّتْ	ابھر آئی	اس نے حفاظت		
								ابھر آئی	5	بَهِيْجٍ	رونق دار			



4	أَعَانَهُ	مدد کی اس کی
5	تُمَلَى	پڑھی جاتی ہیں
7	الْأَسْوَاقِ	بازار (جمع)
12	تَغِيظًا	جوش مارتا ہوا
13	مُقَرَّرِينَ	جکڑے ہوئے
13	تُبَوَّرًا	موت
18	قَوْمًا بُورًا	ہلاک ہونے والے لوگ
33	تَحَصَّنَا	پاکدامن رہنا
35	كَمْشِكَآةٍ	جیسے طاق
35	مِصْبَاحٍ	چراغ
35	رُجْحَاةٍ	شیشہ
35	دُرِّيٍّ	چمک دار
35	زَيْتَهَا	تیل اسکا
37	تَتَقَلَّبُ	اٹ جائیں
39	كَسْرَابٍ	جیسے سراب
39	قَيْعَةٍ	چٹیل میدان
40	لُجِيِّ	گہرا
41	صَافَاتٍ	پر پھیلائے ہوئے
43	رُكَامًا	تہہ بہ تہہ
43	الْوَدَقِ	بارش
49	مُذْعِنِينَ	گردن جھکائے
50	يَحِيفُ اللَّهُ	ظلم کرے گا اللہ
55	لَيَسْتَخْلِفَنَّهٗ	ضرور خلافت دے
58	تَصْعُونَ	م اتار کر رکھتے ہو
59	الْحُلْمِ	شعور
60	الْقَوَاعِدُ	خانہ نشیں بوڑھی عورتیں
60	غَيْرِ	نہ ظاہر کرتے ہوئے
61	مُتَّبِعَاتٍ	لنگڑا
61	الْأَعْرَاجِ	چچا تمہارے
61	أَعْمَامِكُمْ	ماموں تمہارے
61	أَشْتَاتَا	جدا جدا
63	يَتَسَلَّلُونَ	چپکے سے کھسک جاتے ہیں
63	لِوَادَا	نظر بچا کر
(((25 سُورَةُ الْفُرْقَانِ)))		
1	تَبَارَكَ	بڑی برکت والا
3	نُشُورًا	پھر اٹھنا
101	فَلَا أَنْسَابَ	تو نہ رشتے
104	تَلْفُحٍ	جھلس دے گی
104	كَالْحَوْنِ	تیوری پڑھائے ہوئے
108	اِحْسُؤُوا	پھٹکارے ہوئے پڑے رہو
110	سِخْرِيًّا	ٹھٹھا
113	الْعَادِينَ	شمار کرنے والے
115	عَبَثًا	بے کار
(((24 سُورَةُ التَّوْرِ)))		
2	فَاجْلِدُوا	تو کوڑے مارو
2	جَلْدَةٍ	کوڑے
2	رَأْفَةً	مہربانی، ترس
4	يَزْمُونَ	تہمت لگائیں
4	تَمَانِينَ	اسی (80)
8	يَذْرَأُ	ٹل جائے گا، ہٹ جائے گا
11	جَاؤُوا	لائے بڑا بہتان
14	أَفْضُشْمٍ	تم پڑے
15	تَلْقُونَهُ	تم لیتے رہے اسکو
22	لَا يَأْتِلُ	نہ قسم کھائیں
27	تَسْتَأْنِسُوا	تم اجازت لے لو
30	يَعْضُوا	پنچی رکھیں
31	خُمْرِهِنَّ	اوڑھنیاں انکی
31	مُجِيبِهِنَّ	سینے انکے، گریبان انکے
31	غَيْرِ أُولِي	نہ غرض رکھنے والے
31	الْإِزْبَةِ	عورتوں کے پردے
31	عَوْرَاتٍ	بیوہ عورتیں
32	النِّسَاءِ	کنیزیں تمہاری
32	الْأَيَامِي	
32	إِمَابِكُمْ	
(((پارہ-18))))		
(((23 سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ)))		
6	غَيْرِ مَلُومِينَ	نہیں جو ملامت کیے گئے
8	رَاعُونَ	رعایت کرنے والے
12	سَلَالَةٍ	خلاصہ، چنی ہوئی
13	قَرَارٍ مَّكِينٍ	مضبوط جگہ
20	طُورِ سَيْنَاءَ	سیناء کا پہاڑ
20	بِالذَّهْنِ	ساتھ تیل کے
20	صِنَعٍ	سالن
28	اسْتَوَيْتَ	بیٹھ جاؤ
33	أَنْتَرْنَاهُمْ	ہم نے عیش دیا انہیں
36	هَيْهَاتَ	بعید ہے
41	غُثَاءَ	خس و خاشاک
44	تَشْرَا	پے در پے
50	ذَاتِ قَرَارٍ	ٹھہرنے کا مقام، قرار والی
54	عَمَّرْتَهُمْ	غفلت انکی
66	تَنْكِصُونَ	پھر جاتے
67	سَامِرًا	افسانہ گوئی کرتے ہوئے
67	تَهَجَّرُونَ	بے ہودہ بکواس کرتے ہوئے
72	خَوْجًا	اجر
72	خَوْرًا	اجر
74	لَنَا كِجُونَ	البتہ ہٹے ہوئے لوگ
75	لَجُوعًا	اڑے رہیں
88	يُجِيرُ	پناہ دیتا ہے
97	هَمَزَاتٍ	وسوسے
100	بَرْزُخٍ	برزخ





والے  
الْعَنْكَبُوتِ 41 مکڑی  
أَوْهَنْ 41 سب سے کمزور

حَجَّجَ 29 سَارَ 29 چلا  
جَذْوَةَ 29 چنگاری  
شَاطِئِ 30 کنارہ  
الْوَادِي 30 میدان دایاں  
الْأَيْمَنِ 30 جگہ  
الْبُقْعَةَ 30 زیادہ فصیح  
أَفْصَحُ 34 مددگار  
رِدْأً 34 میں جھانکوں  
أَطْلُعُ 38 بد حال لوگ  
الْمَقْبُوحِينَ 42 تو طویل ہوگی  
فَتَطَاوَلَ 45 رہنے والے  
تَاوِيًا 45 ہم نے پیہم بھیجا  
وَصَلْنَا 51 اتراتی تھیں  
بَطَرْتُ 58 اختیار  
الْحَيِرَةَ 68 ہمیشہ  
سَرْمَدًا 71 ایک نام  
فَازُونَ 76 البتہ بھاری ہوتیں  
لَتَتَوَّأَ 76 نصیب والا  
ذُو حَظٍّ 79 نہیں نصیب ہوتا وہ  
لَا يُلْقَاهَا 80 لوٹنے کی جگہ  
مَعَادٍ 85 تم امید رکھتے  
تَرْجُو 86

((29 سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ))  
لَاتٍ 5 ضرور آنے والا  
خَمْسِينَ 14 پچاس، 50  
أَصْحَابِ 15 کشتی والے  
السَّفِينَةِ 15  
فِي نَادِيكُمْ 29 تمہاری محفلوں میں  
دَرْعًا 33 دل  
مُسْتَبْصِرِينَ 38 سمجھ بوجھ والے  
سَابِقِينَ 39 بیچ کر بھاگ نکلنے

((((( پارہ-20 )))))

رَبِيعٌ  
حَدَائِقِ 60 باغات  
رَوَاسِي 61 پہاڑ  
حَاجِزًا 61 آڑ  
الْمُضْطَرَّ 62 بے قرار  
أَذْرَكَ 66 تھک کر رہ گیا  
رَدِفَ 72 قریب، پیچھے لگا  
تُكِنُّ 74 چھپتی ہے  
فَفَرِعَ 87 تو گھبرا جائے گا  
دَاخِرِينَ 87 عاجز ہونے والے،  
زَلِيلٍ 87 زلیل  
جَامِدَةً 88 جمی ہوئی  
أَنْقَنَ 88 خوبی سے بتایا

((28 سُورَةُ الْقَصَصِ))

هَامَانَ 6 فرعون کے وزیر کا نام  
فَالْتَقَطَهُ 8 پھراٹھا لیا اسکو  
فَارِعًا 10 صبر سے خالی (بے قرار)  
قُصْبِيهِ 11 پیچھے جالکے  
فَاسْتَعَاثَهُ 15 تو اس نے مدد مانگی اس سے  
فَوَكَرَهُ 15 تو مکا مارا اسکو  
يَسْتَرْقِبُ 18 انتظار کرتا ہوا  
أَمْسٌ 18 کل (گزر رہا ہوا)  
يَسْتَصْرِخُهُ 18 فریاد کر رہا ہے اس سے  
يَأْتِمِرُونَ 20 مشورہ کر رہے  
تَذُودَانِ 23 روکی ہوئیں (دونوں)  
الرِّعَاءِ 23 چرواہے  
اسْتَأْجِرُهُ 26 ملازم رکھ لو اسکو  
ثَمَانِي 27 آٹھ سال



(((36 سورة يس)))		مَرْفَأَهُمْ		72 أَشْفَقْنَ		(((پارہ-22))))	
8	مُقَمَّحُونَ	ہم نے پرانہ	کریا انکو	ڈر گئے	31	يَقْتُلُ	اطاعت کرے
12	آثَارَهُمْ	کھڑے کیے جانے	والے	34 سورة سبأ	32	فَلَا تَخْضَعْنَ	تو نہ ملاامت کرو
12	أَخْصَيْنَاهُ	بالا خانے	الغُرْفَاتِ	3	لَا يَعْزُبُ	قَرْنَ	قرار پکڑو
12	إِمَامٍ مُّبِينٍ	عوض دے گا اسکا	يُخْلِفُهُ	7	مُرْفَقُهُمْ	تَبْرُجَ	بناؤ سنگھار
14	فَعَزَّزْنَا	دسواں حصہ	مِعْشَارَ	7	مُمَرِّقِي	لَطِيفًا	رازداں
		ڈالتا ہے	يَقْدِفُ	10	أَوْبِي	الْخَيْرَةُ	اختیار
		پس نہ بچ سکیں گے	فَلَا فَوْتَ	10	أَلْتَا	زَيْدٌ	ایک صحابی کا نام
		پکڑنا، ہاتھ آنا	التَّائِشُ	11	سَابِغَاتِ	وَطْرًا	حاجت
		آڑ کر دی گئی، حاصل	حِيلَ	11	قَدِرٌ	أَدْعِيَابِهِمْ	لے پالک انکے
		کر دی گئی	أَشْيَاعِهِمْ	11	فِي السَّوْدِ	رِسَالَاتِ اللَّهِ	پیغامات اللہ کے
		ہم جنس لوگ انکے	35 سورة فاطر	12	رَوَاحِهَا	تَحِيَّتُهُمْ	دعا ان کی
			أُولِي	12	أَسَلْنَا لَهُ	دَعٌ	خیال نہ کریں، نظر
			أَجْنِحَةٍ	12	مَحَارِبِ	أَفَاءَ اللَّهِ	انداز کریں
			يَبُورُ	13	تَمَائِيلِ	تُرُجِي	اللہ نے ہاتھ لگا
			سَابِغٌ	13	جِفَانِ	تُؤْوِي	دیں
			شَرَابُهُ	13	كَالْجَوَابِ	عَزَلْتُ	آپ دور رکھیں
			قَطْمِيرٍ	13	قُدُورِ	إِنَاهُ	آپ پاس رکھیں،
			وَلَا الْخُزُورِ	13	رَّاسِيَاتِ	وَلَا	جگہ دیں
			جَدُدٌ	14	مِنْسَأَتُهُ	مُسْتَأْنِسِينَ	دور کر دیا آپ نے
			حُمْرٌ	16	سَيْلِ الْعَرِمِ	يُصَلُّونَ	پکنا اسکا
			عَرَابِيْبٌ	16	أُكْلٍ	يُذْنِبِينَ	اور نہ جی لگا کر بیٹھنے
			سُوْدٌ	16	خَمِطٍ	جَلَابِيْهَةً	والے (بنو)
			لُغُوْبٌ	16	أَثَلٍ	الْمُرْجُفُونَ	دروہ بھیجتے ہیں
			يَصْطَرِخُونَ	16	سَيْدِرٍ	لَنْغَرِيَّتِكَ	ڈال لیا کریں
			مَقْتًا	18	ظَاهِرَةً	لَا	چادریں انکی
			تَزُولَا	18	السَّيْرِ	يُجَاوِزُونَكَ	جھوٹی انواہیں
			زَالَتَا			سَادَتَنَا	پھیلانے والے
			لَا يَحِيْقُ				ضرور ہم پیچھے لگا
							دیں گے آپ کو
							نہ ہمسایہ رہیں گے
							یُجَاوِزُونَكَ
							آپ کے
							سَادَتَنَا
							سردار ہمارے

((( (پارہ-23) ))))

12	ذُو الْأَوْتَادِ	مجنوں والا	12	وَالِ	والے
15	فَوَاقٍ	ڈھیل	15	شَجَرَةٌ	درخت تھوہڑکا،
16	قِطْنَا	حصہ ہمارا	16	الرِّقْمِ	سینڈکا
17	ذَا الْأَيْدِ	قوت (ہاتھ) والا	17	أَصْلِ	جڑ
19	مَحْشُورَةً	اکٹھے کیے ہوئے	19	فَمَا لُؤُونَ	سو بھرنے والے
21	تَسْوَرُوا	دیوار پھاند کر آئے	21	لَشَوْبًا	البتہ ملا ملا کر
22	وَلَا تُشْطِطْ	اور نہ زیادتی (بے انصافی) کر	22	أَلْفُوا	انہوں نے پایا
23	تَسْعُ	ننانوے، 99	23	سَقِيمٌ	بیمار
23	وَتَسْعُونَ		23	فِرَاعٌ	پھر پوشیدہ گھس گیا
23	نَعَجَةٌ	دنبی	23	يَزِفُونَ	دوڑتے ہوئے
23	أَكْفَلْنِيهَا	حوالے کر دے مجھے اسکو	23	تَلَّهُ	الٹایا
23	عَزَنِي	دبایا مجھ کو	23	الْجَبِينِ	پیشانی
24	الْخُلَطَاءِ	شریک	24	الْمُسْتَبِينَ	واضح
25	لَزَلْفَى	البتہ قریب	25	بَعْلًا	سامی قوم کے ایک
28	كَالْفَجَارِ	جیسے فاجروں (بد کردار)	28	لَتَمُرُونَ	البتہ گزرتے ہو
31	الصَّافِنَاتِ	اصیل گھوڑے	31	أَبَقَ	بھاگ گئے
31	الْحِيَادِ	عمدہ	31	فَسَاهَمَ	تو قرعہ ڈالا
32	تَوَارَتْ	چھپ گیا	32	الْمُدْحَضِينَ	دھکیلے گئے
33	فَطَفِقَ	پھر شروع کیا	33	فَالْتَقَمَهُ	پھر اسے نگل گیا
36	رُخَاءِ	زری سے	36	الْعُرَاءِ	چٹیل میدان
37	بِنَاءِ	عمارت بنانے والے	37	فَاتِنِينَ	بہکانے والے
37	غَوَاصِ	غوطہ مارنے والے	37	صَالِ	(کسی میں) جانے والا، داخل ہونے والا
39	امْنُنْ	احسان کر	39	سَاحْتِهِمْ	میدان انکا
42	ارْكُضْ	(زمین پر) مار	42	وَلَاتِ	اور نہ تھا
44	ضِعْفًا	جھاڑو	44	مَنَاصِ	چھڑکارا
44	وَلَا تَحْنُتْ	اور نہ توڑ قسم	44	اِخْتِلَافُ	من گھڑت
47	الْأَخْيَارِ	سب سے اچھے	47	فَلْيَبْتَغُوا	تو وہ چڑھ جائیں
52	أَتْرَابِ	ہم عمر	52	مَهْزُومٌ	شکست خوردہ
54	نَفَادِ	ختم	54		
78	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	78	كَيْبَانِ	کیا نہیں
62	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	62	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
64	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	64	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
66	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	66	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
67	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	67	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
69	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	69	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
89	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	89	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
93	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	93	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
94	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	94	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
103	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	103	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
103	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	103	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
117	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	117	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
125	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	125	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
137	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	137	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
140	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	140	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
141	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	141	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
141	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	141	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
142	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	142	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
145	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	145	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
162	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	162	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
163	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	163	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
177	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	177	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
3	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	3	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
3	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	3	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
7	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	7	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
10	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	10	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
11	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	11	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
53	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	53	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
54	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	54	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
56	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	56	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ
57	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ	57	رَمِيمٌ	گلی ہوئی، بوسیدہ

غَسَّاقٌ	57	پیپ
مُقْتَحِمٌ	59	گھنے والا
لَا مَرْحَبًا	59	نہ ہو کوئی فراخی
صَالُوا النَّارِ	59	داخل ہونے والے جہنم میں
الْأَشْرَارِ	62	شریر (جمع)
تَخَاضَمٌ	64	باہم جھگڑنا
الْمَالِ	69	عالم بالا
الْأَعْلَى	69	عالم بالا
لَأَمْلَأَنَّ	85	ضرور میں بھر دوں گا
الْمُتَكَلِّفِينَ	86	بناوٹ کرنے والے

(39 سُورَةُ الزُّمَرِ))

يُكْوَرُ	5	لپیٹتا ہے
خَوْلَهُ	8	(سامان) دے اسے
مَبِيَّةٌ	20	بے ہوئے
يَهِيحُ	21	ختک ہوتا ہے
حُطَامًا	21	چوراچورا
مَثَانِي	23	دہرائی گئی، دہرائی جانے کے قابل
تَقَشَعُرُ	23	بال کھڑے ہو جاتے ہیں
تَلِينُ	23	نرم ہو جاتی ہیں
مُتَشَاكِسُونَ	29	آپس میں ضدی لوگ

		((( (پارہ-24) )))		
انکی خوراکیں،	أَقْوَاتَهَا	10	45 اشْمَأَزَّتْ تنفر ہو جاتے ہیں	
توتیں	توتیں			
دھواں	دُخَانٌ	11	53 لَا تَقْنَطُوا نہ مایوس ہو	
خوشی سے کرنے	طَائِعِينَ	11	56 يَا حَمْسِرَتِي ہائے افسوس	
والے	والے			
تند و تیز	صَوْرًا	16	56 مَا فَرَطْتُ جو میں نے کوتاہی کی	
نحست والے	نَحْسَاتٍ	16	56 جَنبِ اللَّهِ اللہ کا حق	
گروہ گروہ کیے	يُوزَعُونَ	19	63 مَقَالِيدُ کنجیاں	
جائیں گے	جائیں گے			
گویائی دی ہم کو	أَنْطَقْنَا	21	69 أَشْرَفَتْ چمک اٹھے	
تم چھپاتے	تَسْتَتِرُونَ	22	71 سِيقَ ہانکے جائیں	
معافی چاہیں	يَسْتَعْتِبُوا	24	71 زُمْرًا گروہ گروہ	
معافی قبول کیے	الْمُعْتَبِينَ	24	71 خَزَنَتُهَا محافظہ رکھے	
جانے والے	جانے والے			
مقرر کیے ہم نے	فَيَصْنَا	25	73 طِبْنُكُمْ تم اچھے رہے	
ہم نشین	فُرْنَاءَ	25	75 حَافِينَ حلقہ باندھے ہوئے	
شور مچاؤ	الْعَوَا	26	((( 40 سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ )))	
نہیں وہ اکتاتے	لَا يَسْمَأُونَ	38	3 ذِي الطَّوْلِ بڑے فضل والا	
			10 لَمَقَّتْ اللَّهُ البتہ اللہ کا بیزار ہونا	
			18 يَوْمَ التَّلَاقِ ملاقات (قیامت) کا دن	
			18 يَوْمَ الْآزِفَةِ قریب آنے والا (قیامت) کا دن	
			32 يَوْمَ التَّنَادِ چیخ پکار کا دن	
			37 فِي تَبَابٍ تباہی میں	
			44 أَفْوَضُ میں سونپتا ہوں	
			58 وَلَا الْمُسِيءُ اور نہ بدکار	
			71 السَّلَاسِلُ زنجیریں	
			71 يُسْحَبُونَ گھسیٹے جائیں گے	
			72 يُسْحَرُونَ جھونک دیے جائیں گے	
			((( 41 سُورَةُ حَمِ السَّجْدَةِ )))	
			8 غَيْرُ مَمْنُونٍ ختم نہ ہونے والا	



32	اَخْتَرْنَا هُمْ انھیں	ہم نے پسند کیا
45	يَعْلِي کھولتا ہے	
47	فَاعْتَلَوْهُ پھر کھینچو اسے	
48	صُبُّوا ڈالو	
<b>((45 سُورَةُ الْجَاثِيَةِ))</b>		
8	يُصِرُّ اڑا رہتا ہے	
21	اجْتَرَحُوا کمائیں، کیس	
24	الدَّهْرُ زمانہ	
28	جَاثِيَةً گھٹوں کے بل	
29	نَسْتَنْسِخُ گھرے ہوئے لکھاتے تھے	
23	مُقْتَدُونَ پیروی کرتے ہیں	
28	فِي عَقِبِهِ نسل میں اسکی	
32	سُخْرِيًّا خدمت گار	
33	مَعَارِجَ سیڑھیاں	
36	يَعِشُ شب کو ری کرے،	
	عَنْ آنکھ چرائے، (غفلت کرے)	
39	مُشْتَرِكُونَ آپس میں شرکت کرنے والے	
52	يُبِينُ صاف گفتگو کرتا	
53	مُقْتَرِنِينَ پرا باندھ کر	
54	فَاسْتَحَفَّ پس اس نے بے عقل کر دیا، سبک کر دیا	
55	آسَفُونَا انہوں نے غصہ دلایا ہمیں	
57	يَصِدُّونَ چلنے لگتے ہیں	
67	الْأَخْلَاءَ تمام دوست	
71	صِحَافٍ رکابیاں	
71	أَكْوَابٍ آبخورے	
71	تَلَذُّ لذت ہوگی	
75	لَا يُفْتَنُ ہکانہ کیا جائے گا	
79	أَبْرُمُوا انہوں نے ٹھیرا لی	
<b>((44 سُورَةُ الدُّحَانِ))</b>		
4	يُفْرِقُ فیصل کیا جاتا ہے، جدا کیا جاتا ہے	
15	عَابِدُونَ لوٹ آنے والے	
18	أَنْ أَدُّوا کہ سپرد کر دو	
24	رَهْوًا ٹہرا ہوا	
27	فَاكِهِينَ مزے اڑاتے، مزے اڑانے والے	
29	فَمَا بَكَتْ سو نہ روئے	
<b>((43 سُورَةُ الزُّحُرْفِ))</b>		
5	صَفْحًا اعراض کر کے	
8	مَضَى گزر چکا	
13	لِتَسْتَوُوا تاکہ تم ٹھیک بیٹھو	
15	جُزْءًا جز، حصہ	
18	يُنشَأُ پرورش پائے	
5	يَتَفَطَّرُونَ پھٹ پڑیں	
11	يَذُرُّكُمْ وہ پھیلاتا ہے تم کو	
13	شَرَعَ مقرر کیا	
16	دَاحِضَةً باطل	
18	يُمَازُونَ جھگڑتے ہیں	
23	يَقْتَرِفُ کمائے گا	
32	الْحَوَارِ جہاز	
32	كَأَنَّ أَعْلَامَ جیسے پہاڑ (جمع)	
33	فَيُظْلَلْنَ تو وہ رہ جائیں	
33	رَوَاكِدَ کھڑے ہوئے	
34	يُوبِقَهُنَّ وہ ہلاک کر دے انہیں	
38	سُورَى مشورہ	
45	ظَرْفٍ گوشہ چشم پوشیدہ	
45	خَفِيٍّ (کنارہ چھپا ہوا)، نیم کشادہ	
50	عَقِيمًا بانجھ	
53	تَصِيرُ پھرتے ہیں، لوٹتے ہیں	



(((پارہ-27))))

39 زُكِّيهِ قوت اسکی  
59 ذُنُوبًا پیانہ

(((52 سُورَةُ الطُّورِ)))

3 فِي رَقٍ اوراق میں  
4 النَّبِيِّتِ بيت المعجور  
6 النَّبْحِ دریا جوش مارتا  
9 الْمَسْجُورِ ہوا  
9 تَمُورٌ تھر تھرائے گی  
9 مَوْرًا تھر تھرا کر،  
13 يُدْعُونَ وہ دیکھے جائیں گے  
13 دَعَا دیکھ دیکر  
21 أَلْتَنَاهُمْ ہم نے کمی نہیں کی انکو  
21 رَهِيْنٌ گروی  
24 غِلْمَانٌ خدمت گار لڑکے  
30 رَيْبٌ حوادثِ زمانہ  
32 أَمْوَالُهُمْ عقلیں انکی  
33 تَقْوَلَهُ گھڑ لیا اسکو  
37 الْمَصِيْطُونَ داروغے  
40 مُثْقَلُونَ دے جانے والے

(((53 سُورَةُ النَّجْمِ)))

1 إِذَا هَوَىٰ جب وہ غائب ہونے لگے  
2 غَوَىٰ بھٹکا  
5 الشَّقْوَىٰ سخت قوتوں والا  
6 ذُو مِرَّةٍ طاقتوں والا  
8 دَنَا وہ نزدیک ہوا  
8 فَتَدَلَّىٰ پھر اور نزدیک ہوا

9 قَابِ کمان  
9 قَوْسَيْنِ دو کمنارے  
13 نَزْلَةً أُخْرَىٰ اترا دوسری مرتبہ  
14 سِدْرَةٍ آخری حد کا پیری  
14 الْمُنتَهَىٰ کا درخت  
19 اللَّاتِ بت کا نام  
19 الْغَزَىٰ بت کا نام  
20 مَنَاةَ بت کا نام  
22 قِسْمَةٌ بانٹ، تقسیم  
22 ضِيْرَىٰ بے ڈھنگی  
27 تَسْمِيَةٌ نام  
30 مَبْلَغُهُمْ رسائی انکی  
32 اللَّمَمَ چھوٹے لُگناہ  
32 أَحْتَتُهُ بچے  
34 وَأَكْدَىٰ بند کر دیا  
43 وَأَبْكَى رلایا  
46 إِذَا تَمَنَّىٰ جب وہ ڈالا جاتا ہے  
48 أَفْسَىٰ سرمایہ دار کیا  
49 الشَّعْرَىٰ ستارہ کا نام  
53 أَهْوَىٰ دے مارا  
55 تَتَمَارَىٰ توشک کرے گا  
61 سَامِدُونَ غفلت کرنے والے

(((54 سُورَةُ الْقَمَرِ)))

2 مُسْتَمِرٌّ (ہمیشہ سے) ہوتا  
4 مُزْدَجَرٌ چلا آنے والا  
7 جَزَادٌ ڈانٹ  
7 مُنْتَشِرٌ پراگندہ ٹڈیاں  
9 وَازُدْجَرَ اور ڈرایا دھمکایا گیا  
11 مُنْهَبِرٌ کثرت سے برسنے والا  
13 دُسِرٌ کیلے والی

15 مِنْ مُدَكِّرٍ کوئی نصیحت  
17 يَسْرُونَ پکڑنے والا  
20 أَعْجَازُ تنے  
20 نَحْلٍ مُنْقَعِرٍ سبھور  
24 سُغْرٍ دیوانگی  
26 الْأَشْرُ خود پسند  
28 مُحْتَضِرٌ حاضر کیا گیا  
29 فَتَعَاطَىٰ سواس نے دست درازی کی  
31 كَهَشِيمٍ سوکھے جھاڑ کا ٹٹے  
31 الْمُحْتَظِرِ بار لگانے والا  
44 مُنْتَصِرٌ بدلہ لینے والا  
46 أَذْهَىٰ زیادہ سخت  
46 أَمْرٌ بڑا تلخ  
50 كَلْمِحٍ جیسے جھپکنا  
53 مُسْتَظْرٌ لکھا ہوا

(((55 سُورَةُ الرَّحْمَنِ)))

5 بِحُسْبَانٍ ایک حساب سے  
10 لِلْأَنَامِ مخلوق کے لیے  
12 ذُو الْعَصْفِ بھوسے والا  
12 وَالرَّيْحَانَ اور خوشبو کے پھول  
13 فَبِأَيِّ تُو كُونِي تو کونسی  
13 آلاءِ نعمتوں  
14 كَالْفَخَّارِ جیسے ٹھیکڑی  
15 مَارِجٍ شعلہ مارنے والی  
19 يَلْتَقِيَانِ ایک دوسرے سے ملے ہوئے  
20 لَا نَبِيْعِيَانِ نہیں وہ دونوں زیادتی کرتے

22 وَالْمَرْجَانُ اور مونگے  
24 الْجَوَارِ کشتیاں، چلنے والیاں  
24 الْمُنَشَّاتُ اونچی کی ہوئی کشتیاں  
26 فَا نِ فتا ہونے والا  
27 ذُو الْجَلَالِ صاحب عظمت  
31 سَنَفُرٌ بہت جلد ہم فارغ  
31 غُ يامتو جھوتے ہیں  
33 تَنْفُذًا تم نکل بھاگو  
33 أَقْطَارِ آسمان کے کنارے  
35 السَّمَاوَاتِ کمنارے  
35 سُوَاطٍ ایک شعلہ  
35 وَنَحَاشٍ اور دھواں  
37 وَرِذَّةٌ گلابی  
37 كَالدَّهَانِ جیسے سرخ چمڑا  
41 بِالنَّوَاصِي پدیشانیوں سے  
44 اِنِ کھولتا ہوا  
48 ذَوَاتَا أَفْنَانٍ بہت سی شاخوں والے  
54 بَطَابِيْهُهَا استراٹکے  
54 اِسْتَبْرَقِ ریشم  
54 جَنَىٰ میوے  
54 دَانٍ نزدیک  
56 لَمْ يَطْمِئِنَّ نہیں ہاتھ لگایا انھیں  
58 الْيَاقُوْثُ یا قوت  
64 مُدْهَاقَتَانِ دو نہایت گہرے سبز رنگ کے  
66 نَضَّاعَتَانِ دو شدت جوش مارنے والے  
68 وَرِزْقَانِ اور انار  
72 مَقْصُورَاتٌ رکی رہنے والیاں (پردہ

11	تَفَسَّحُوا	تم کھل کر بیٹھو	11	يَأْنِ آيَا	یہاں آیا	43	يَحْمُومٌ	دھواں	72	فِي الْخِيَامِ	خیموں میں
11	انْشُرُوا	اٹھ کھڑے ہو	20	وَتَفَاخُرُوا	اور فخر کرنا	45	مُتَرَفِّعِينَ	نعمت میں پلے	76	عَلَى زَفْرَفٍ	مسدوں پر
16	جِنَّةٌ	ڈھال	20	وَتَكَاثُرُوا	اور کثرت کی خواہش	46	يُصِرُّونَ	اڑے ہوئے	76	وَعَبَقَرِيٍّ	اور خوب صورت
19	اسْتَحْوَذَ	غالب آگیا	22	أَنْ نَجْرَاهَا	کہ ہم پیدا کریں اسکو	46	الْحَنَثِ	گناہ بھاری	(((56 سُورَةُ الْوَاقِعَةِ)))		
20	الْأَذْلَى	ذلیل ترین لوگ	27	وَرَهْبَانِيَّةٌ	اور ترک دنیا	55	شُرْبِ الْهَيْمِ	پینا پینا سے اونٹ کی طرح	1	الْوَاقِعَةُ	واقع ہونے والی
22	يُؤَادُونَ	وہ دوستی رکھتے ہیں	27	ابْتَدَعُوهَا	انہوں نے خود نکالا اسکو	65	تَفَكَّهُونَ	تم باتیں بناتے	3	خَافِضَةً	پست کرنے والی
(((59 سُورَةُ الْحَشْرِ)))			27	رَعَوْهَا	نبھایا اسکو	66	لَمُعْرُومٍ	البتہ وہ جن پر تاوان پڑ جائے،	4	إِذَا رُجَّتْ	جب لرزنے لگے گی
2	لِأَوَّلِ	پہلے اجتماع پر	27	حَقِّ رِعَايَتِهَا	حق نبھانے کا اسکو	69	الْمُزْنَ	جو قرضدار ہو جائیں	4	رَجًّا	سخت زلزلہ
2	الْحَشْرِ		(((پارہ-28))))			71	تُوذُونَ	تم سلگھاتے ہو	5	بُسَّتِ	رہزہ رہزہ ہو جائیں گے
2	مَانَعْتُهُمْ	بچانے والے انکو	(((58 سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ)))			73	لِلْمُقَوِّينَ	مسافروں کے لیے	5	بَسًّا	رہزہ رہزہ
2	حُضُونَهُمْ	قلعے انکے	1	وَتَشْتَكِي	اور شکایت کرتی	75	مَوَاقِعَ	منزلیں	6	مُنْبِتًا	پر اگندہ
2	يُخْرِبُونَ	وہ برباد کرنے لگے	1	تَحَاوَرَكُمَا	گفتگو تم دونوں کی	79	الْمُطَهَّرُونَ	وہ جو پاک کیے گئے	10	السَّابِقُونَ	سبق لے جانے والے
2	فَاعْتَبِرُوا	تو عبرت پکڑو!	2	يُظَاهَرُونَ	ظہار کرتے ہیں	81	مُدْهِنُونَ	سستی کرنے والے	13	ثُلَّةٌ	بڑی جماعت
3	الْجَلَاءِ	جلا وطن ہونا	2	وَلَدْنَهُمْ	ان عورتوں نے جنا انھیں	83	الْخَلْقُومَ	حلق	15	مَوْضُوعًا	سونے کے تاروں سے بنے ہوئے
5	لَيْسِنَةٍ	درخت کے تنے	2	وَزُورًا	اور جھوٹ	86	غَيْرَ	نہ آنے والے کسی کے قہر میں، خود مختار	18	أَبَارِيقَ	آفتابے
6	أَوْحُفْتُمْ	تم نے دوڑایا	3	يَعُودُونَ	وہ رجوع کر لیں	89	فَرُوحٌ	توراحت	19	لَا يُصَدِّغُونَ	نہ انھیں درد دسر ہوگا
7	دَوْلَةً	ہاتھوں ہاتھ لینا	4	شَهْرَيْنِ	دو مہینے	94	تَصْلِيَةً	ڈال دینا، داخل ہونا	20	يَتَخَيَّرُونَ	وہ پسند کریں گے
9	حَاجَةً	کوئی حاجت	4	سِتِّينَ	ساتھ، 60	(((57 سُورَةُ الْحَدِيدِ)))			25	لَا تَأْتِيَا	نہ گناہ کی بات
9	خَصَاصَةً	تنگی	5	يُحَادُونَ	وہ مخالفت کرتے ہیں	7	مُسْتَحْلَفِينَ	جانشین لوگ	28	مَخْضُودٍ	بے خار والی
9	يُؤَثِّرُونَ	وہ ایثار کرتے ہیں، مقدم رکھتے ہیں	5	كُفِبُوا	وہ ذلیل کیے جائیں گے	13	نَقْتَبِسُ	ہم حاصل کر لیں	29	طَلْحٍ	کیلے
9	يُوقَ	بچایا گیا	6	أَخْصَاهُ	گن رکھا ہے اسکو	13	فَالْتَمِسُوا	پھر تم تلاش کرو	30	مَمْدُودٍ	لمبا، دراز
14	مُحَصَّنَةٍ	قلعہ بند	8	وَمَعْصِيَتِ	اور نافرمانی	13	بِسُورٍ	ایک دیوار	31	مَسْكُوبٍ	گرتا ہوا، بہتا ہوا
21	حَاشِعًا	دبا ہوا	8	حَيِّوِكَ	آپ کو	16	أَلَمَ	کیا نہیں (وقت) نزدیک	36	بِ	(جھرنوں سے)
21	مُتَصَدِّعًا	ٹکڑے ٹکڑے	9	ظَاهِرًا	سلام دعا دیتے ہیں	(((60 سُورَةُ الْمُمتَحِنَةِ)))			37	عُزْبًا	محبوب
23	الْمُهَيَّمُنِ	نگہ بان	9	فَاطْمَحْنُوهُمْ	تو امتحان کر لیا کرو	1	تَلْفُونِ	تم پیغام بھیجتے ہو	37	أَنْزَابًا	ہم عمر
23	الْمُتَكَبِّرِ	بڑائی والا	10	تَلْفُونَ	تم پیغام بھیجتے ہو	4	بُرَاءَ	لا تعلق	42	سَمُومٍ	گرم ہوا
23	الْمُتَكَبِّرِ	بڑائی والا	1	تَلْفُونَ	تم پیغام بھیجتے ہو	7	بُرَاءَ	لا تعلق			
23	الْمُتَكَبِّرِ	بڑائی والا	4	بُرَاءَ	لا تعلق	13	عَادِيْتُمْ	تم عداوت رکھتے ہو			
23	الْمُتَكَبِّرِ	بڑائی والا	7	عَادِيْتُمْ	تم عداوت رکھتے ہو	13	ظَاهِرًا	انہوں نے مدد کی			
23	الْمُتَكَبِّرِ	بڑائی والا	9	ظَاهِرًا	انہوں نے مدد کی	16	فَاطْمَحْنُوهُمْ	تو امتحان کر لیا کرو			

گے اسکا پھل اور نہ انھوں نے اِن يَسْتَنْتُونُ سَاءَ اللّٰه كَمَا پھرنے والا نَابِمُونَ سونے والے كَالصَّرِيمِ جیسے کٹا ہوا کھیت صَارِمِينَ کاٹنے والے عَلَى حَزْدٍ بجلی پر ایک دوسرے کو يَتَلَاوُمُونَ ملا مت کرتے ہوئے يُكْسِفُ کھول دیا جائے گا سَاقٍ پنڈلی جیسے مچھلی كَصَاحِبِ والے الْحُوتِ غم سے بھرا ہوا مَكْظُومٍ پایا (سنجھلا) اسکو تَدَارَكُهُ البتہ وہ ڈالا جاتا لَنْبِذٍ چٹیل میدان میں بِالْعُرَاءِ کہ وہ پھسلادیں لَيُرْلِقُونَكَ آپ کو (69 سُورَةُ الْحَاقَّةِ))	تَمَيَّزُ پڑے فَسَخَطًا تو دوری (لعنت) ذُلُولًا مسخر فِي مَنَاجِبِهَا اسکے راستوں میں وَهُ ذُهَيْطُ بَنِي وہ ڈھیٹ بنے لَجُوعًا ہوئے ہیں مُكِنًّا گرتا ہوا أَهْدَى زیادہ ہدایت یافتہ زُلْفَةً نزدیک سَيِّئَاتٍ برے (سیاہ) يُجَاوِزُ ہو جائیں گے يُجِيرُ پناہ دے گا مَاءٍ مَّعِينٍ رواں پانی (68 سُورَةُ الْقَلَمِ))	تَمَيَّزُ تمہاری استطاعت مِن وُجْدِكُمْ کے مطابق وَأْتَمِرُوا اور باہم مشورہ كِرْلِيَا كِرْو کر لیا کرو تَعَاَسَرْتُمْ باہم کنکاش کرو تم ذُو سَعَةٍ وسعت والا عَتَّتْ سرکش کی (66 سُورَةُ التَّحْرِيمِ))	تَبَتَّعِي چاہتے ہوئے تَجَلَّةٌ کھولنا (کفارہ) أَسْرٌ راز کی بات کہی صَعَتٌ کج ہو گئے تَظَاهَرَا تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی قَانِنَاتٍ فرمان برداری کرنے والیاں تَابِيَاتٍ توبہ کرنے والیاں سَابِحَاتٍ روزہ رکھنے والیاں ثَيِّبَاتٍ شوہر دیدہ غِلَاطٌ درشت خو نَصُوحًا خالص ابنِ لِي بنادے میرے لیے	اِنَّا وَلَا تُمْسِكُوا اور نہ تم قبضہ رکھو عِصْمٍ رسیاں (تعلقات) الْكُوفِرِ کافر عورتوں سے (61 سُورَةُ الصَّفِّ)) بُنِيَانٌ ایک عمارت مَرْصُوعٌ سیسہ پلائی ہوئی أَحْمَدٌ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام (62 سُورَةُ الْجُمُعَةِ)) أَسْفَارًا کتابیں انْفِصَاوًا دوڑ جاتے، دوڑے (63 سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ)) أَجْسَامُهُمْ جسم انکے خُشْبٌ لکڑیاں مُسْتَدَّةٌ دیوار سے لگائی ہوئی صَبِيحَةٌ بلند آواز لَوَا وہ پھیر لیتے ہیں يَنْفِصُوا وہ منتشر ہو جائیں لَا تُلْهِكُمْ نہ غافل کر دیں تمہیں (64 سُورَةُ التَّعَابِينِ))
سَجِّحْ مچھ ہونے والی الْحَاقَّةُ (قیامت) كَهْرُكْهُرَانِ کھڑکھڑانے والی بُزْيُ زُرُورِ كِي آوَارِ بڑی زور کی آواز تند و تیز صَرَ صَرَ حد سے بڑھی ہوئی عَاتِيَةً لگا تار حُسُومًا گری ہوئی صَرَ عَى سخت رَابِيَةً اور یاد رکھے اسکو وَتَعِيَهَا یاد رکھنے والے، یاد وَأَعِيَةً	والا مِهِينٍ بے وقعت هَمَّازٍ عیب نکالنے والا مَشَاءٍ پھرنے والا نَمِيمٍ چغلی عُثْلٍ سخت خو زَيْبِمٍ بد اصل سَنَسِمُهُ عنقریب ہم داغ دیں گے اسکو الْحُرْطُومِ ناک لَيَصْرِفْنَهَا ضرور ہم توڑ لیں	طِبَاقًا تہہ در تہہ مِن تَفَاوُتٍ کوئی فرق مِن فُطُورٍ کوئی، شگاف حَسْبِيٌّ تھکی ماندہ رُجُومًا مارنے کا آلہ تَفُورٌ جوش مار رہی ہو گی تَكَادُ تقریب ہے کہ پھٹ	نقصان اٹھانے ہار يَوْمُ التَّعَابِينِ جیت (گادن) (65 سُورَةُ الطَّلَاقِ)) فَارِقُوهِنَّ جد کرو انھیں ذَوِي عَدْلِ دو انصاف پسند بَالِغٌ پورا کرنے والا أَوْلَادٌ حمل والیاں الْأَحْمَالِ وضع کر دیں، رکھ يَضَعْنَ دیں، جن لیں	

رکنے والی	8	كَأَمْهَلٍ	جیسے بگھلا ہوا تانبہ	26	دَيَّارًا	لینے والا	13	ذَا غُصَّةٍ	گلے میں اٹک	
پھونک	9	كَأَلْعَيْنِ	جیسے رنگین اون	28	تَبَارًا	ہلاکت	14	تَرْجُفٍ	کانپنے کی	
پس ریزہ ریزہ	13	وَفَصِيلَتِهِ	اور کنبہ اسکا		((( 72 سُورَةُ الْحَجِّ )))			14	كَنِيْبًا	ریت کے تودے
کردیے جائیں گے	13	تُؤْوِيهِ	جگہ دیتا ہے اسکو	1	نَفْرٌ	جماعت	14	مَهِيْلًا	ریزہ ریزہ	
بالکل کمزور	15	لَطْيٍ	بھڑکتی ہوئی آگ	3	جُدٌّ	شان	16	وَبِيْلًا	بڑے وبال، بھاری	
کنارے اس کے	16	نَزَاعَةً	اُدھیرنے والی	6	رَهَقًا	تکبر میں	18	مُنْفِطْرٌ	پھٹ پڑنے والا	
پوشیدہ	16	لِللشَّوَى	کھال کو	8	مِلْسَتْ	بھرا ہوا		((( 74 سُورَةُ الْمُدَّثِرِ )))		
لو	18	فَأَوْعَى	پھر اسے بند رکھا،	8	حَوْسًا	پہریدار	1	الْمُدَّثِرُ	کپڑے میں لپٹا ہوا	
میرا اعمال نامہ	18	رَوَكَ لِيَا	روک لیا	8	شُهْبًا	شعلے	3	فَكَتَبِرُ	تو بڑائی بیان کرو	
عیشہ	19	هَلُوْعًا	بڑا بے صبر	9	رَّصَدًا	گھات لگایا ہوا	5	وَالرَّجَزِ	اور پلیدی	
زندگی پسندیدہ	20	جَزُوْعًا	گھبراٹھے والا	11	قَدَدًا	مختلف	5	فَاهَجُرُ	سودور رہو	
میوے اس کے	21	مَنْوَعًا	بجھل کرنے والے	12	هَرَبًا	بھاگ کر	8	فَإِذَا نَقَرَ	پھر جب پھونکا جائے گا	
قریب	23	دَائِمُونَ	ہمیشہ (پابندی)	13	بَحْسًا	نقصان	8	التَّافُورِ	صور	
گزرے ہوئے ایام	23	كِرْنِيَّ	کرنے والے	14	الْقَاسِطُونَ	گنہ گار	14	تَمْهِيدًا	بچھونا	
الْحَالِيَةِ	37	عَزِيْنَ	گروہ در گروہ	14	تَحَزَّرُوا	انہوں نے قصد	17	سَأَرْهِفُهُ	اب میں چڑھاؤں گا اسکو	
مجھے نہ دیا جاتا	41	مَسْبُوقِيْنَ	عاجز کیے جانے والے	15	حَطَبًا	ایندھن	17	صَعُوْدًا	بڑی چڑھائی	
اور نہ جانتا میں	43	يُوفِضُونَ	لیک رہے ہیں	16	عَدَقًا	وافر	18	فَكَرَّ	سوچا	
قصہ چکا دینے والی		((( 71 سُورَةُ نُوحٍ )))			17	صَعْدًا	سخت	22	عَبَسَ	تیوری چڑھائی
پس طوق پہناؤ	7	أَصْرُوا	اڑ گئے	19	لِبَدًا	حلقہ در حلقہ	22	وَبَسَرَ	اور منہ بگاڑ لیا	
اسے	13	وَقَارًا	وقار	24	أَقْلُ	کم تر		((( 73 سُورَةُ الْمُزْتَمِلِ )))		
ڈال دو اسے	14	أَطْوَارًا	طرح طرح		1			الْمُزْتَمِلُ	کپڑوں میں لپٹنے والے	
فِي سِلْسِلَةٍ زَنْجِيرٍ مِثْلِ	19	بِسَاطًا	فرش		6			نَاشِئَةً	اٹھنا	
پیمائش اسکی	23	وَدَا	قوم نوح کے ایک		6			وَوَطْءًا	روندنے والا	
ہاتھ	23	سُوَاعًا	بزرگ کا نام		6			وَأَقْوَمُ	اور زیادہ درست	
پس جگر دو اسے	23	يَغُوْثٌ	قوم نوح کے ایک		7			سَبْحًا	شغل	
اور نہ رغبت دلاتا	23	يَعُوْقٌ	بزرگ کا نام		8			تَجْتَبِيْلًا	(سب سے) چھوٹ کر	
پس	23	نَسْرًا	قوم نوح کے ایک		11			وَمَهْلَهُمْ	اور مہلت دے انکو	
کاہن (فال بتانے والا)	23		بزرگ کا نام		12			أَنْكَالًا	عذاب	
کاہن	23		بزرگ کا نام					((( 70 سُورَةُ الْمَعَارِجِ )))		
الْأَقْوَابِلِ	23		بزرگ کا نام							
باتیں	23		بزرگ کا نام							
الْوَتِيْنَ	23		بزرگ کا نام							
(رگ) گردن	23		بزرگ کا نام							
حاجزین	23		بزرگ کا نام							
روکنے والے	23		بزرگ کا نام							

اڑتے پھریں	10	نُسِفَتْ	5	كَافُورًا	51	قَسُورَةَ	شیر
وقت پر جمع کیے جائیں	11	أُقْتَتَتْ	6	تَفْجِيرًا	56	أَهْلُ التَّقْوَى	ڈرنے کے لائق، جو اہل ہو ڈرنے کا
ملتوی رکھی گئی، وقت کیلئے مقرر کی گئی	12	أُجِلَّتْ	7	مُسْتَطِيرًا	56	أَهْلُ الْمُغْفَرَةِ	مغفرت کے لائق، جو اہل ہو مغفرت کا
فیصلے کا دن	13	لَيُومِ الْفَصْلِ	13	وَلَا زَمَهْرِيرًا		(( ( 75 سُورَةُ الْقِيَامَةِ )))	
سمیٹنے والی اونچے اونچے پانی بیٹھا	25	كِفَاتًا	14	وَذُلَيْلًا	2	اللَّوَامَةِ	ملامت کرنے والی
شانیں شعلہ (تپش) چھینکتی ہے	27	شَامِخَاتٍ	14	تَذَلِيلًا	7	بَرَقَ الْبَصُرُ	چندھیا جائیں گی آنکھیں
شعلے اونٹ (جمع)	27	فُرَاتًا	15	بِأَنبِيَةٍ	8	وَحَسَفَ	اور گڑبگڑ جائے
	30	شُعَبٍ	17	زَنْجَبِيلًا	10	الْمَفْرُ	بھاگنے کی جگہ
	31	اللَّهَبِ	18	تُسَمَّى	11	لَا وَرَزَّ	نہیں کوئی بچاؤ
	32	تَرْمِي	18	سَلْسَبِيلًا	15	مَعَاذِيرُهُ	عذر اس کے
	32	بِشَرِّرٍ	19	مُخَلَّدُونَ	22	نَاصِرَةٌ	تازہ (بارونق)
	33	جِمَالَتْ	28	أَسْرَهُمْ	24	بَاسِرَةٌ	بگڑے ہوئے
					25	فَاقِرَةٌ	کمر توڑنے والا
					26	التَّرَاقِي	ہنسی
					27	زَاقٍ	جھاڑ پھونک کرنے والا
					29	وَالْتَقَّتْ	اور لپٹ جائے
					30	الْمَسَاقُ	چلنا
					33	يَتَمَطَّى	اگڑتا
					34	أُولَى لَكَ	انسوس تجھ پر
					36	سُدَى	مہمل
					37	مَنْبِي	منی
					37	يُمْنَى	پٹکایا
						(( ( 76 سُورَةُ الدَّهْرِ )))	
					1	الدَّهْرُ	زمانہ
					1	مَدْكُورًا	قابل ذکر
					2	أَمْشَاجٍ	مخلوط
					5	مِزَاجُهَا	آمیزش اسمیں
					6	عُدْرًا	جھٹکا
					8	طُمَسَتْ	بے نور ہو جائیں
					9	فُرِحَتْ	پھٹ جائے



((( (پارہ-30) ))))

(( (سُورَةُ النَّبَاِ) ))

13 وَهَاجًا جھکتا ہوا  
14 الْمُعْصِرَاتِ پانی بھری بدلیاں  
14 شَجَّاجًا بارش موسلا دھار  
16 أَلْفَافًا پتوں میں لپٹے ہوئے  
18 أَفْوَاجًا گروہ در گروہ  
21 مِرْصَادًا گھات میں  
22 مَآبًا ٹھکانا  
23 أَحْقَابًا مدتوں  
26 وَفَاقًا پورا  
29 أَحْصِيْنَاهُ ہم نے گن رکھی ہے  
33 وَكَوَاعِبِ اور نوجوان عورتیں  
34 دِهَاقًا چھلکتے ہوئے  
36 عَطَاءِ انعام  
38 صَوَابًا ٹھیک بات

((( (سُورَةُ النَّازِعَاتِ) ))))

1 وَالنَّازِعَاتِ قِطْمِ گھیٹ کر کھینچنے  
1 غَرْفًا تِ وَيُؤْتِيكَ غوطہ لگا کر  
2 النَّاشِطَاتِ چھڑانے والے  
2 نَشِطًا کھول کر  
3 السَّابِحَاتِ تیرنے والیاں  
3 سَبْحًا تیرنا  
5 فَالْمُدْبِرَاتِ پھر تدمیر کرنے والے  
6 الرَّاجِفَةُ کانپنے والی  
7 الرَّادِفَةُ پیچھے آنے والی  
8 وَاجِفَةُ دہڑکنے والے  
10 لَمَزْدُوْدُوْنَ البتہ لوٹائے جانے والے

10 الْحَافِرَةَ پہلی حالت  
11 نَحْرَةً کھوکھلی  
14 بِالسَّاهِرَةِ میدان میں  
28 سَمَكُهَا چھت اسکی  
29 أَغْطَشُ تاریک کر دیا  
30 ذَحَاهَا بچھایا اسکو  
31 مَرْعَاهَا چارہ اسکا  
32 أَرْسَاهَا قائم کیا اسکو  
34 الطَّائِمَةُ ہنگامہ  
42 مَرْسَاهَا ٹھیرنا اسکا  
46 عَشِيَّةً شام

((( (سُورَةُ عَبَسَ) ))))

6 تَصَدَّى فکر کرتے ہو  
10 تَلَهَّى تغافل کرتے ہو  
15 سَفَرَةَ لکھنے والے  
16 كِرَامٍ بزرگ  
16 بَرَزَةَ نیکوکار  
21 فَأَقْبَرَهُ پھر قبر میں رکھا اسکو  
22 أَنْشَرَهُ نکالا اسکو  
25 صَبَبْنَا اوپر سے ڈالا  
25 صَبًّا گرتا ہوا  
26 شَقَقْنَا ہم نے پھاڑا (چیرا)  
26 شَقًّا پھاڑ کر  
28 وَقَصَبًا اور ترکاری  
30 غَلْبًا گھنے  
31 وَأَنْبَاً اور چارہ  
33 الصَّاحَّةُ کان پھوڑنے والی  
38 مُسْفِرَةٌ چمکتے والے  
39 مُسْتَجِسِرَةٌ خوشیاں منانے والے  
40 عَبْرَةٌ غبار  
1 كُوْرَتٍ لپیٹ دیا جائے

2 انكَدَرَتْ ماند پڑ جائیں  
4 الْعِشَارُ دس ماہ کی گابھن  
4 اودنیاں  
4 عَطَلْتُ چھٹی پھریں  
5 الْوُحُوشُ وحشی جانور  
6 سُجِرَتْ بھڑکائے جائیں  
7 زُوْجَتْ جوڑے باندھے جائیں  
8 الْمَمُورُودَةُ زندہ گاڑی ہوئی (لڑکی)  
11 كُشِطَتْ کھال کھینچ لی جائے  
12 سُعِرَتْ بھڑکائی جائے  
15 الْخُحْسِ پیچھے ہٹ جانے والے  
16 الْجَوَارِ سیدھے چلنے والے  
16 الْكُنَّسِ چھپ جانے والے  
17 عَسَعَسَ پھیل جائے  
18 تَنَفَّسَ دم بھرے  
21 مُطَاعٍ سب کا مانا ہوا، جس کا کہا مانا جائے  
24 ضَبْنٍ بچل کرنے والا

((( (سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ) ))))

1 اِنْفَطَرَتْ پھٹ جائے  
2 اِنْتَشَرَتْ جھڑ پڑیں  
3 فُجِرَتْ ابل پڑیں، بہہ نکلیں  
4 بُعِثَرَتْ کریدی جائیں  
6 مَا عَزَّكَ کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا  
8 رَكْبِكَ جوڑ دیا تجھے

((( (سُورَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ) ))))

1 لِلْمُطَفِّفِيْنَ کمی کرنے والوں کے لیے

2 إِذَا اكْتَالُوا جب ماپ کریں  
2 يَسْتَوْفُونَ پورا بھر لیں  
3 كَالْوَهْمِ ماپ کر دیں  
3 يُحْسِرُونَ گھٹا کر دیں  
7 سَبَّحِينَ سبحین  
9 مَرْقُومٌ لکھا ہوا  
14 زَانَ زنگ پکڑ گیا  
15 لَمَحْجُوْبُوْا البتہ روک دیے  
15 نَّ جانے والے  
18 عَلِيَيْنَ علیین  
24 نَصْرَةَ تروتازگی  
25 رَحِيْقٍ خالص شراب  
25 مَحْتَمُوْمٍ سر بہسر، مہر لگی ہوئی  
26 مِسْكٌ مشک  
27 تَسْنِيْمٍ جنت کے ایک چشمہ کا نام  
30 يَتَعَامَرُونَ آنکھ مارتے ہوئے  
36 ثُوبٍ بدلہ دیا گیا

((( (سُورَةُ الْاِنشِقَاقِ) ))))

1 اِنشَقَّتْ پھٹ جائے  
2 وَحَقَّتْ اور اسی لائق ہے  
3 مُدَّتْ پھیلا دی جائے  
4 وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے  
6 كَادِحٌ تکلیف اٹھانے والا  
6 كَذْحَاً خوب تکلیف  
9 مَسْرُوْرًا خوش خوش  
14 لَنْ يَحْوَرَ ہرگز نہ لوٹے گا  
16 الشَّفَقِ شام کی سرخی  
17 وَسَقٌ سمٹ آئے  
18 اِتَّسَقَ مکمل ہو جائے  
19 طَبَقًا ایک درجہ  
23 يُوعُونَ بھر رکھتے ہیں

3	أَنْقَضَ	توڑ دی	13	فَكَ	چھڑانا	15	مَصْفُوفَةً	برابر بچھے ہوئے	15	(( ( 85 سُورَةُ الْبُرُوجِ )))
7	فَرَعَتْ	آپ فارغ ہوں	14	ذِي مَسْعَبَةٍ	بھوک والا	16	وَزَزَابِي	اور گدے	16	4 الْأُخْدُودِ خندق (جمع)
7	انصَبَ	محنت کریں	15	ذَا مَقْرَبَةٍ	قربت والا	16	مَبْتُوثَةً	بکھرے ہوئے	16	16 فَعَالٌ کر ڈالنے والا
8	ارْعَبَ	رغبت کریں	16	ذَا مَثْرَبَةٍ	خاک نشین	19	نُصِبَتْ	کھڑے کیے گئے	19	(( ( 86 سُورَةُ الطَّارِقِ )))
	(( ( 95 سُورَةُ التَّيْنِ )))		17	وَتَوَاصَوْا	اور باہم وصیت کی	20	سُطِحَتْ	بچھائی گئی	20	1 الطَّارِقِ رات کو آنے والا (ستارہ)
4	أَحْسَنَ	بہترین سانچے	17	بِالْمَرْحَمَةِ	رحم کھانے کی	25	إِيَابَهُمْ	لوٹنا انکا	25	6 دَافِقٍ اچھلتا ہوا
	تَقْوِيمَ		20	مُؤَصَّدَةً	موندی (بند) کی ہوئی		(( ( 89 سُورَةُ الْفَجْرِ )))			7 الصُّلْبِ پیٹھ
5	رَدَدْنَاهُ	ہم نے لوٹا دیا اسکو		(( ( 91 سُورَةُ الشَّمْسِ )))		3	وَالشَّفَعِ	اور جنت کی	3	7 والتَّرَائِبِ اور پسلیاں، سینے کی ہڈیاں
	(( ( 96 سُورَةُ الْعَلَقِ )))		2	تَلَاهَا	پیچھے نکلے اسکی	5	وَالْوَثْرِ	اور طاق کی	5	9 السَّرَابِ راز
3	الْأَكْرَمِ	بڑا کریم	3	جَلَّاهَا	روشن کر دے اسکو	7	إِذِمَّ	توم کا نام	7	11 ذَاتِ الرَّجْعِ لوٹانے والی، بارش والی
7	اسْتَعْنَى	بے پروا	4	يَعْشَاهَا	ڈھانپے اسے	7	ذَاتِ الْعِمَادِ	ستونوں والے	7	12 ذَاتِ الصَّدَعِ پھٹ جانے والی
8	الرُّجْعَى	لوٹنا	6	طَحَاهَا	پھیلا یا اسے	9	جَابُوا	تراشے، کاٹے	9	14 الْهَزْلِ بیہودہ بات
15	لَنَسْفَعًا	ضرور ہم بھسیں گے	10	دَسَّاهَا	خاک میں ملایا اسے	9	الصَّخْرِ	سخت پتھر	9	17 زُوَيْدًا تھوڑا
15	النَّاصِيَةِ	پیشانی	14	فَدَمَدَمَ	پھر ہلاکت ڈالی	13	سَوَاطِ	کوڑا	13	
17	نَادِيَه	مجلس اسکی	15	عَقَبَاهَا	انجام اسکا	18	وَلَا تَحَاضُونَ	اور نہیں رغبت دلاتے	18	(( ( 87 سُورَةُ الْأَعْلَى )))
18	الرَّبَّانِيَةَ	پیادے، ڈھکیلنے والے (فرشتے)		(( ( 92 سُورَةُ اللَّيْلِ )))		19	الثَّرَاثِ	مال میراث	19	5 أَحْوَى سیاہ
	(( ( 97 سُورَةُ الْقَدْرِ )))		10	لِلْغَمْسِيِّ	دشواری یا سختی کے لیے	19	أَكَلًا لَمَّا	کھانا سمیٹ کر	19	11 وَيَتَجَنَّبُهَا اور پہلو تہی کرے گا اس سے
1	كَيْلَةَ الْقَدْرِ	عزت والی رات	11	إِذَا تَرَدَّى	جب نیچے گرے گا	20	حُبًّا جَمًّا	محبت بہت	20	11 الْأَشْقَى بد بخت
	(( ( 98 سُورَةُ الْبَيْتَةِ )))		14	تَلَطَّى	بھڑکتی ہوئی	23	وَجِيءَ	اور لائی جائے	23	16 تُوْتُورُونَ تم ترجیح دیتے ہو
1	مُنْفَكِّينَ	باز آنے والے	17	وَسَيَجْتَنِبُهَا	اور عنقریب بچالیا جائے گا اس سے	26	وَلَا يُوثِقُ	اور نہ باندھ کر رکھے	26	(( ( 88 سُورَةُ الْغَاشِيَةِ )))
3	فَيَمَّةٌ	مضبوط		(( ( 93 سُورَةُ ضَحَى )))		27	الْمُظْمِئَةِ	اطمنان والی	27	1 الْغَاشِيَةِ ڈھانپنے والی
6	شَرُّ الْبَرِيَّةِ	بدترین مخلوق	2	سَجَى	چھا جائے		(( ( 90 سُورَةُ الْبَلَدِ )))			3 نَاصِبَةٌ مشقت اٹھانے والے
7	خَيْرُ الْبَرِيَّةِ	بہتر مخلوق	3	قَلَى	بیزار ہوا	2	جَلُّ	اترے ہوئے	2	4 حَامِيَةٌ دکھتی ہوئی
	(( ( 99 سُورَةُ الزُّلْزَالِ )))		3	مَا وَدَّعَكَ	نہیں چھوڑا آپ کو	4	كَبِدٌ	مشقت	4	6 صَرِيحٌ خاردار گھاس
1	زُلْزَلَتْ	ہلا ڈالی جائے	8	عَابِلًا	مفلس	6	أَهْلَكْتُ	خرچ کر ڈالا	6	7 لَا يُسْمِنُ نہ مونا کرے گا
1	زُلْزَالَهَا	زلزلہ اسکا	9	فَلَا تَقْهَرْ	تو قہر نہ کر	6	لُبْدًا	ڈھیروں	6	8 نَاعِمَةٌ تروتازہ
4	أَخْبَارَهَا	خبریں اسکی	10	فَلَا تَنْهَرْ	تو نہ جھڑک	9	وَشَفَتَيْنِ	اور دو ہونٹ	9	9 رَاضِيَةٌ خوش خوش
6	يَصْدُرُ	باہر نکلیں گے	11	فَحَدِّثْ	سو بیان کر	10	التَّجْدِيْنِ	دور استے	10	11 لَاعِيَةٌ بے ہودہ بکواس
	(( ( 100 سُورَةُ الْعَادِيَاتِ )))			(( ( 94 سُورَةُ الشُّرَحِ )))		11	فَلَا اقْتَحِمْ	پس نہ داخل ہوا	11	14 مَوْضُوعَةٌ چپنے ہوئے
1	وَالْعَادِيَاتِ	قسم دوڑنے والے گھوڑوں کی	2	وَوَضَعْنَا	اور ہم نے اتار دیا	11	الْعَقَبَةَ	کھائی	11	15 وَنَمَارِقٌ اور غالیچے

3	وَلَمْ يُؤَلَّكَ	اور نہ وہ چنا گیا	6	الْمُوقَدَّةُ	بھڑکائی ہوئی	1	صَبَحًا	ہانپ کر، ہانپنا
4	كُفُّوا	ہمسرے، برابری کا		(( 105 سُورَةُ الْفِيلِ ))		2	الْمُورِيَاتِ	چنگاریاں اڑانے والے
	(( 113 سُورَةُ الْفَلَقِ ))		2	فِي تَضَلِيلٍ	گمراہی میں (بے کار)	2	قَدَحًا	جھاڑ کر، ٹاپ مارنا
3	عَاسِقٍ	اندھیرا	3	أَبَابِيلَ	جھنڈ کے جھنڈ	3	الْمُغِيرَاتِ	غارت گرمی کرنے والے
3	وَقَبٍ	چھا جائے	5	مَاكُولٍ	کھایا ہوا	4	فَأَثَرُونَ	پھر اڑائیں
4	التَّقَاتِ	پھونکیں مارنے والیاں		(( 106 سُورَةُ قُرَيْشٍ ))		4	نَقَعًا	گرداڑا کر، گرداڑانا
4	الْعُقَدِ	گرہیں، گانٹھیں	1	لِإِيْلَافٍ	مانوس کرنے کے سبب	5	فَوَسَطْنَ	پھر جا گھسیں
	(( 114 سُورَةُ النَّاسِ ))		1	قُرَيْشٍ	قبیلہ کا نام	6	لَكِنُودًا	البتہ ناشکرا
4	الْوَسْوَسِ	وسوسہ ڈالنے والا	2	رِحْلَةً	سفر	9	بُعَيْرٍ	اٹھائے جائیں گے
4	الْحَتَّاسِ	چھپ چھپ کر حملہ کرنے والا	2	السَّيِّئِ	سردی	10	حُضِلَ	سامنے لایا یا حاصل کر لیا جائے گا
			2	وَالصَّيْفِ	اور گرمی		(( 101 سُورَةُ الْقَارِعَةِ ))	
			4	وَأَمْنَهُمْ	اور امن دیا انکو	4	كَالْفَرَّاشِ	جیسے پروانے
				(( 107 سُورَةُ الْمَاعُونِ ))		4	الْمَجْشُوثِ	بکھرے ہوئے
			2	يَدْعُ	دکھتے دیتا ہے	5	الْمَنْفُوشِ	دہنکی ہوئی
			5	سَاهُونَ	غانفل لوگ	9	فَأَمَّهُ	توٹھکا ناسکا
			7	الْمَاعُونَ	عام ضرورت کی چیز	9	هَآوِيَةً	ہاویہ
				(( 108 سُورَةُ الْكُوثرِ ))			(( 102 سُورَةُ التَّكْوِيْرِ ))	
			1	الْكُوثرِ	کوثر	1	أَلْهَآكُمُ	غفلت میں رکھا تمہیں
			2	وَأَنْحَزَ	قربانی دے	2	زُرْتُمْ	تم نے زیارت کی
			3	الْأَبْتَرِ	دم کٹا، نامراد	5	عِلْمَ الْيَقِيْنِ	یقین والا علم
				(( 109 سُورَةُ الْكَافِرُوْنَ ))		7	عِيْنَ الْيَقِيْنِ	یقین کی آنکھ
				(( 110 سُورَةُ النَّصْرِ ))			(( 103 سُورَةُ الْعَصْرِ ))	
			1	تَبَّتْ	ٹوٹ گئی	1	وَالْعَصْرِ	قسم زمانے کی
			1	أَبِي لَهَبٍ	ابولہب (نام)		(( 104 سُورَةُ الْهُمَزَةِ ))	
			1	وَتَبَّتْ	اور وہ ہلاک ہو	1	هُمَزَةً	طعنہ زن
			5	جِيْدَهَا	اسکی گردن	1	لُمَزَةً	عیب جو
			5	مَسَدٍ	کھجور	2	عَدَدَهُ	گن گن کر رکھا
				(( 112 سُورَةُ الْإِخْلَاصِ ))		4	لِيَنْبَدَنَّ	ضرور ڈالا جائے گا
			2	الصَّمَدِ	بے نیاز	5	الْحَطْمَةَ	روندنے والی
			3	لَمْ يَلِدْ	نہ اس نے جنا			